

رَبَّنَا اقْبَلْ هَذَا مِنْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَاذَا أَعْرَضَ اللَّهُ بِعِيَابِهِ الْوَسْطِيِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِثْرًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(یہ کہہ)

قُلْ

عِشْقُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَذْهَبِي وَحِبَّتِي مِلَّتِي
 وَطَائِعَتِي مَنَزِلِي !
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عشق میرا مذہب، محبت میری
 ملت اور اتباع میری منزل ہے

حضرت ابو انیس محمد بركات علیؑ اور بیوی سہیلہ بنت ہاشم



Qul

'ishqu Muḥammadin
 Ṣallalla-hu 'Alayhi wa Sallam
 Madh-habi
 Wa ḥubbu-hu
 Millati
 Wa Tā'aru-hu Manzili!

(Say:

Devotion to the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ is my faith;
 his love,
 my way of life;
 and obedience to him, my goal!)

Ḥadrat Abu Anees Muḥammad Barkat 'Ali
 Ludhiānvi Quddisa Sirruhul 'Aziz

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ تَارِكُ الْعَالَمِينَ ط

Asmā' al-Nabi al-Karīm -
The Bounteous Names
of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

by
Abū Anees Muḥammad Barkat Ali Ludhianvi,
Founder Dār-ul-Eḥsān

Selected publications by Abu Anees Muhammad Barkat
Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (29 Rabī' al-Ākhir 1329 AH/27 April 1911 CE -
16 Ramaḍan al-Mubārak 1417 AH/26 January 1997 CE)

Kitāb Al-'Amal Bis-Sunnah Al-Ma'rūf Tartīb Sharīf
Volumes I-VI

Makshūfāt Manāzil-i-Ehsān Volumes I-V

Makshūfāt Manāzil-i-Ehsān Al-Ma'rūf Maqālāt-i-Hikmat
Volumes I-XXX - (English editions: Volumes I-VII & XX-
XXI)

Finality of Divine Revelations and Prophethood on the Holy
Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Tragedy of Karbalā & Martyrdom of Imām Hussain رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Ta'lim-ud-Dīn - (English edition: Teachings of Islām)

Manāqib Ḥaḍrat Uwais Qarni رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (English edition:
Virtues of Uwais Qarni رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

© Dār-ul-Ehsān Publications

First Published 1997 CE (1417 AH)

ISBN (Paperback) 0 905773 36 5

ISBN (Hardback) 0 905773 37 3

All rights reserved. No part of this
publication may be reproduced or
transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including
photocopying, storage and retrieval system,
without permission in writing from
the publisher.

Cover Design, Typesetting and artwork by servants of Dār-ul-Ehsān
Printing and binding by The Bath Press

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ذَلِكَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لِلَّهِ الْإِلَهَاءُ الْكَافَّةُ يُحْيِي الْقِيَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْرَافَ الْوَعْدِ وَالْإِنشَاءُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْرَافَ الْوَعْدِ وَالْإِنشَاءُ

الإهداء

إلى

حضرة الأقدس الأكمل الأطيب الأظهر الأكرم
الأجمل جناب سرور كائنات فخر موجودات ، سيد
الكونين ، سيد المرسلين ، خاتم النبيين ، رحمة
للعالمين ، شفيع المذنبين ، شفيع الأمم ، شفيع
الأمّة ، صاحب الجود والكرم ، عاصم المطهرة
نبي الخاتم ، رسول الآخر ، صاحب تيجان
المقربين ، راحة قلوب المؤمنين ، حبيب رب العالمين
مصباح المقربين ، محب العاشقين ، محبوب الطالبين
العارفين ، سراج السالكين ، مأ وانا وملجانا وسيدنا
وسندنا ونبيّنا ورسولنا ومولينا وحبيبنا ومحبوبنا

مُحَمَّدٌ

المصطفى أحمد من المجتبي محمد النبي الأمي

حضرة


مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِلْقَائِمَةِ إِلَّا اللَّهُ يَحْيَى وَيَوْمَ الْيَوْمِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِسْرَافُ فَضْلِهِ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكُرْآنِ الَّتِي نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لَعَلَّكَ تَعْقِلُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرِزْقُ الْبَشَرِ يَحْيَى وَيَوْمَ الْيَوْمِ

Dedication

This piece of work is dedicated to the exalted, the holy, the perfect, the pure, the sanctified, the blessed, the beautiful, the revered master of the Universe, the pride of everything, the leader of both the Worlds, the leader of the Messengers (ﷺ), the seal of the Prophets (ﷺ), the mercy to mankind, the intercessor of the sinners, the nations and the Muslim Nation, the embodiment of grace and blessing, the absolute guardian, the last Messenger and Prophet ﷺ, the crown of the near-ones, the comforter of true Muslims' hearts, the beloved of the Lord of the Worlds, the light of the near-ones, the friend of the devotees, the beloved of the seekers and the learned, the beaconlight for the travellers on the path, our wealth, our supporter, our leader, our Messenger ﷺ, our Prophet ﷺ, our master adjudicator, our loved and beloved Muhammad ﷺ, the unlettered Prophet, *Hadrat Muhammad Rasūlullāh SallAllāhu 'Alayhi Wa Sallam* (ﷺ), peace and blessings be on him, his family and his companions, and grace and blessings be on them all.



رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِلَّهِ الْكَرَمُ الْكَافِرُ يَا قُدُّوسُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ بَنِي مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ وَصَلِّ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
الْحَقُّ الْمَعْلُومُ وَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ بِحَقِّهِ

Acknowledgements

Acknowledgements are due to all the authors and compilers whose books and compilations have been made use of and benefited from in the compilation and documentation, order and management, designing and compositing, reprography and planning, scholarship and commentary, explanation and example and, finally, reproduction and distribution of this book. Grateful thanks are owed to all the scholars, learned men and others whose knowledge, literature, doctrine, thought, writings, skills and finance have been shared. Whoever has helped and assisted me in whatever way in putting together this holy and sacred book deserves my heartfelt thanks and gratitude. فَجَزَاهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ (Fajazā humullāhu Aḥsan al-ḥazā' - O Allāh the Almighty! Reward them with the best reward!). I feel obliged and indebted to them all and pray and hope for their forgiveness.

اللَّهُمَّ
تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْهُمْ
أَمِينَ شَرِيفِينَ

Allāhumma Taqabbal Minnā Wa minhum! Āmīn!
Thumma Āmīn!
(O Allāh the Almighty ! Accept from us and from them!
Amen! Amen again!)

Abū Anees Muḥammad Barkāt 'Alī Ludhiānvi Al-Muhājir
il-Allāh Wal-Mutawakkil 'al-Allāh il-'Aẓīm!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا اللَّهُ بِحُجُوبِ الْمُهَيَّبِ وَالْعَلِيِّ وَالْمُهَيَّبِ وَأَوْجِنَا بِحَسْبِكَ
الْقَائِمِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ
الْبَحْلِ الْقَائِمِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ وَالْمُهَيَّبِ

التقديم

اللَّهُمَّ لَكَ الشُّكْرُ وَالْمِنَّةُ بِمَا أَنْعَمْتَ وَكَرَّمْتَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
بِسَجْدِكَ وَصَمَدِيَّتِكَ عَلَى تَخْرِيجِ أَسْمَاءِ مَبَارَكَةٍ وَمَكْرَمَةٍ لِحَبِيبِكَ
الْأَقْدَسِ وَالْأَكْمَلِ وَالْأَكْرَمِ وَالْأَجْمَلِ وَالْأَطْيَبِ وَالْأَطْهَرِ وَطَهِّهِ لِيْسِ
وَالْمَزْمَلِ وَالْمُدَّثَّرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِجَابِ خَفَاءٍ إِلَى ظَهْرِ سَعَادَةٍ
تَارِيخِي شَرَفْتَنَا - وَالْحَمْدُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ -

يسجد لك كل من قطن بدار الإحسان من إنسان وورق شجرة
وذرة أرض على بابك العالی یا ذا الجلال والإكرام بما أنعمت علينا
وانتخبت هذا المقام الخفاف الصَّحَافِ الْمُقْبُولِ الْمُصْطَفِيِّ لِتَخْرِيجِ
أَسْمَاءِ مَعْظَمَةٍ مِنْ حِجَابِ إِلَى الظهور - فالله خير الرازقين -

وتطبع "دار الإحسان" هذه الأسماء المباركة بكتابة نفيسة
وطبعة مزينة وترتيب وترئين وتمدى هذه الهدية الفريدة
الوحيدة التي لا نظير لها ولا مثل لها بفرحة وابتهاج إلى حضرة
الأقدس والأكمل والأجمل والأطيب والأطهر فداه رحي
صلى الله عليه وسلم لنفع جميع أمته إلى يوم الدين ليحصل سعادة الدارين

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

ابوانیس محمد بركت علی عفی عنه
دار الاحسان - پاکستان

Preface

O Allah the Almighty! All praises and thanks are due to You that You have by Your glorious and majestic authority bestowed upon us, the most humble of earthly beings, the historic honour of uncovering the beautiful names of your most favoured and chosen friend, the Holy Prophet Muḥammad ﷺ, also called *Tā-Hā, Yāsīn, Muzzammil* and *Muddaththir*.

Every inhabitant of *Dar-ul-Eḥsan*, indeed its every leaf and speck of dust, bows down to You, the Most Gracious and Most Exalted, for this infinite kindness in choosing this of all places as an oasis for publishing and laying bare from their hidden and eternal abode (Heaven) the most sacred and lofty names and attributes of your dearest and most beloved one. Indeed, You are the best of all providers.

With the utmost pleasure *Dar-ul-Eḥsan* feels honoured to offer this proud, rare, unique publication, with its fine calligraphy and printing, its exquisite setting and illuminations, as a gift for the benefit of the entire *Ummah* (the Muslim Nation) of our noble, the perfect, the most honourable, the most gracious and the most glorious, Holy Prophet Muḥammad ﷺ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

Rabbanā Taqabbal minnā innaka ant-as Samī'ul-'Alīm!
Āmīn! Āmīn! Āmīn!

(O Allah the Almighty! Accept this from us. Indeed, You are the Listener and the Knower! *Āmīn! Āmīn! Āmīn!*)

Abu Anees Muḥammad Barkat Ali
Rector
Dar-ul-Eḥsan, Pakistan

15 Sha'bān Al-Mu'azzam 1398 AH (1 August 1977 CE)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

Translators' Note

After a long and persistent team effort, we have the honour of presenting to our readers/benefactors the English rendering of the first of five volumes of *Asmā' al-Nabi al-Karīm (ṢallAllāhu 'Alayhi Wa Sallam)*, incorporating the original Arabic and Urdu translation. This corresponds to the book printed and published under the close editorial supervision of Mian Muḥammad Shafi Gondal at Dār-ul-Ehsān (Faisalabad, Pakistan) on 15 Sha'bān al-Mu'azzam 1397 AH (1 August 1977 CE). The first drafts of the basic translation into English were accomplished by Imtiaz Aḥmad Quraishi with the help of Professor Ghulam Nabi Saqeb. The text has also received the careful attention of Dr Abdul Wahab, Qari Muḥammad Khan, and Professor Muḥammad Zaman, by way of cross-checking the translation, ascertaining references and verifying grammar and syntax. Sajeda Maryam Poswal (Bristol) and Dr Kate Daniels of the School of Oriental and African Studies (London) have both assiduously gone through and improved upon the English text of the successive manuscripts. All along brother Imdad Ali Aḥmad Poswal has applied his essential skills and has finally set the whole by computer graphics. The Arabic and Urdu calligraphy of the original book, corrected where needed for this edition, has been done in hand by Late Hafiz Muḥammad Yoūsof Sadidi whom the author most kindly honoured with the title of *Ra'īs al-Qalam*. May his soul rest in abiding peace! *Āmīn!* Lest we forget thanks to Al-Hāj Mian Muḥammad Saeed Kamboh and Abdul Razzaq Zaki are recorded for the invaluable help and directions on preliminary artwork and printing processes.

The reader will notice that we have copied Mawlānā Abdullāh Yūsof 'Alī's translation for the *Qur'ānic* references, and have attempted our own for the remaining Arabic references. This is because with the exception of those quotations of the *Ḥadīth* from the

collection of *Muwatta'* of Imām Mālik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, the remainder were found either lacking or unavailable in English.

The ground rules followed in the transliteration of non-English words are a hybrid of both the British and French systems and a key of the two alphabets mainly used for writing Arabic in English phonetically is printed at the end of the book.

This institution records its most sincere thanks to its contributors, especially all those un-named who have so very generously contributed financially towards its printing. In actual fact we all feel privileged to have been assigned this project by its author, *Abū Anees Muḥammad Barkat 'Alī*, whose supplications alone have brought it to fruition. Sadly, he passed away on 16 *Ramaḍān ul-Mubārak* 1417 AH (26 January 1997 CE), leaving millions of his novices mourning the tragic loss. The much felt void thus created in the realm of *Faqr* will be hard to fill in by a spiritual man of his stature. Be that as it may the Will of Allāh the Almighty, we believe these contributions, however infinitesimal, are our credit for the Day of Judgement with *Allāh Subḥānahū Wa Ta'ālā* and His beloved *Ḥaḍrat Muḥammad*, the Holy Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Finally, this book amounts to a most sacred biography of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ in-as-much-as it is a dictionary of his blessed names, personal as well as attributive. It is a unique publication, which we vouch for and commend to our readers, who are requested to kindly refer their queries, if any, to the undersigned. As to the text, calligraphy and presentation, suffice it to say :

It is the essential oil that gives off scent,
Not, as it were, what the perfumer does present.

Al-Ḥamdu-lil-Ḥayy-il-Qayyūm!

Dr Muhammad Iqbal
Amīr

Dār-ul-Ehsān Publications
Huddersfield HD5 8EL, United Kingdom
27 *Ramaḍān-ul-Mubārak* 1417 AH (6 February 1997 CE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَخَلِيفَتِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجْرَتِهِ بِمَدُونِ كُلِّ مَلَكٍ مَلَكٌ
 وَمَا وَعَلَيْكَ وَبِحَبْلِكَ وَبِئْتَمَّتْكَ وَمَا كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ وَالْقُدُّوسُ الرَّبُّ الْعَلِيمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سرسار صفاتِ حمیدہ کے لائق درودِ مساجدِ اللہ پڑھئے

Sayyidunā MUḤAMMAD صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 Ṣallalla-hu ‘Alayhi wa Sallam
 (Our Leader the Highly Praised صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”اور نہیں حضرت محمد
 صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ مگر پیغمبر۔“

اشارہ الی قولہ:
 ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ“
 (سورۃ العمران - آیتہ ۱۴۴)

Reference to the Holy Qur‘ān:

Muḥammad is no more
 Than an Apostle.
 -(Al-i-Imran 3:144)

اور اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”جو حضرت محمد صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ پنازل
 کیا گیا ہے۔“

وإشارة إلى قولہ:
 ”بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ -“
 (سورۃ محمد - آیتہ ۲)

Reference to the Holy Qur‘ān:

رَبَّنَا نَقِئْ لَنَا مَا لَدُنَّكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

..... sent down
 To Muḥammad
 -(Muḥammad 47:2)

اور اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”حضرت محمد ﷺ اللہ کے
 رسول ہیں۔“

و إشارة إلى قوله:
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 (سورة الفتح - آية 29)

Reference to the Holy Qur‘ān:

Muḥammad is the Apostle
 of Allāh.

-(Al-Fat-ḥ 48: 29)

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ
 اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
 کہ حضور اقدس ﷺ نے
 فرمایا کہ میرے کسی نام ہیں۔ میں محمد
 ہوں، احمد ہوں اور ماجی ہوں۔ اللہ
 تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو
 مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ لوگ
 میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے
 اور میں عاقب ہوں یعنی جس کے
 بعد کوئی نبی نہیں۔

عن محمد بن جبیر
 بن مطعم رضی اللہ عنہ عن ابیہ
 ان رسول اللہ ﷺ
 قال ان لی اسماء انا
 محمد و انا احمد
 وانا الماحی الذی
 یحو اللہ بی الکفر
 وانا الحاشر الذی یحشر
 الناس علی قدمی وانا
 العاقب الذی لیس بعدہ
 احد (الصعیح لمسلم الجلد الثانی ص ۲۱)

Ḥaḍrat Muḥammad bin Jubair bin Mut‘im رضی اللہ عنہ has reported on the authority of his father that the Almighty Allāh's Messenger ﷺ said: “I have several names; I am Muḥammad, I am Aḥmad, I am al-Māḥi by whom

Allāh the Almighty will obliterate disbelief; and I am *Hāshir* (The Gatherer) at whose feet people will gather together; I am '*Aqib* that there will be no Prophet after me”.

-(*Sahīh Muslim V 3, P 261*)

حضرت حذیفہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ
 میں ایک مرتبہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سے مدینہ منورہ کے کسی راستہ میں
 ملا جبکہ آپ تشریف لے جا رہے
 تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام
 محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ہے احمد ہے نبی احمد
 ہے نبی التوبہ ہے اور میں آخری نبی
 ہوں، حاشر ہوں اور نبی ملائم ہوں۔

عن حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قال لقيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 في بعض طريق المدينة
 فقال انا محمد و انا
 احمد و انا نبي الرحمة
 و نبي التوبة و انا المقفي
 و انا الحاشر و نبي
 الملائم (شمال الترمذی ط)

Hadrat Hudhaifa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has reported that on one of the streets of Madina he met the Holy Prophet Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ who introduced himself thus: "I am Muhammad. I am *Ahmad*; I am *Nabi-ur-Rahma* (the Messenger of Mercy); I am *Nabi-ut-Tauba* (the Messenger of Repentance); I am *Muqaffa* (the last of the Prophets); I am *Hāshir* (the Gatherer), and I am also *Nabi-ul Malāhim* (the Prophet of battles and the one who unites the community by reforming them and by infusing love and harmony amongst them)".

-(*Shamā'il al-Firniḍhī P26*)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریشوں
 نے آپ کا نام مذموم کہا، لکھ چھوڑا تھا پھر وہ
 آپ کے کالی نکالتے تھے تو اس حضور اقدس
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے تھے کیا تم تعجب نہیں
 کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فوہش کی گندگی کو

قال ابن اسحاق
 وكانت قریش انما تسمى
 رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مذمما ثم
 يسبونونه فكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يقول الا تعجبون لما يصرف

کیسے دُور رکھتا ہے وہ مذم کو گالیاں
نکالتے ہیں اور اسکی بجز کرتے ہیں حالانکہ
میر تو محمد ﷺ (یعنی تعریف کیا گیا ہوں)

اللہ عنی من اذی قریش
یسبون ویہجون مذمما وانا محمد
(سید ابن ہشام مع شرح الروض الاف السہلی ج 3 ص 104)

Ibn Ishāq رحمۃ اللہ علیہ has reported that the Quraishites often detracted the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم by calling him *Mudhammam* (blameworthy). When they called him names, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said: "Are you not amazed at how Allāh the Almighty protects me from the ill-will of the Quraishites who call me *Mudhammam* and defame me? On the contrary, I am *Muhammad* (the Highly Praised)."

-(*Sirat Ibn-e-Hishām V 3, P104*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْتَهُ بِعَدْوِيٍّ وَمُؤَدِّئِي
 يَوْمِي وَعَدُوِّكَ وَرَجِيئِكَ وَرَبِّكَ يَا أَرْكَنَ الْإِسْلَامِ يَا لَأَمَّةَ الْكَرَّمِ يَا قَوْمِي يَا أُمَّةَ الْبَرِّ

سَيِّدِنَا أَبْدُلُ النَّاسِ

ہمارے سرساز جہان سے زیادہ سخاوت کرنے والے درود سلام بھیج لائے

Sayyidunā ABDHAL-UN-NĀS ﷺ
 (Our Leader the Most Generous ﷺ)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”جب سخی اپنے غزانوں کے حقہ بخلی کرتے ہیں تو حضور اقدس ﷺ غریبوں کے لیے سخاوت کا دریا بن جاتے ہیں“

قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ :
 ” وابدل منه للطريف وتالد
 اذا ضن معطاء بما كان يتلد“
 (تابع ابن کثیر ج ۵ - ص ۲۸۱)

Hadrat Ḥassān bin Thābit رضی اللہ عنہ said: "When the generous show meanness with their riches, the Almighty Allāh's Prophet ﷺ sets forth the stream of generosity for the poor."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V5, P281)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس حالت میں کہ غزوہ حنین سے لوٹتے وقت وہ حضور

عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، انه بينما هو ليسير مع رسول الله ﷺ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

اقدس ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو اعراب آپ کو لپٹ گئے، آپ سے کچھ مانگنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک رخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تو آپ کی چادر اس سچٹ گئی۔ پس حضور اقدس ﷺ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری چادر بے دو اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر اُونٹ ہوتے تو میں ان کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم مجھے مجھے بخیل نہ پیاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔

ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقت الاعراب يسألونه حتى اضطروه الى شجرة فخطفت رداءه فوق النبي ﷺ فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة نعم لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا (صحيح البخاري ج 1 - ص 394)

Jubair bin Mut'im رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has narrated that while he was in the company of the Almighty Allāh's Messenger صَلَّوْا عَلَيْنَا وَعَلَىٰ آلِنَا وَسَلَّمَ, there were others returning with him from Hunain. Some Bedouins attached themselves to the Holy Prophet صَلَّوْا عَلَيْنَا وَعَلَىٰ آلِنَا وَسَلَّمَ and started begging of him to the extent that they forced him under a tree (Samura) in which his cloak got caught. The Almighty Allāh's Holy Prophet صَلَّوْا عَلَيْنَا وَعَلَىٰ آلِنَا وَسَلَّمَ stopped and said: "Give me my cloak. If I had had as many camels as these branches, I would have distributed them amongst you, and you would not have found me a miser or a liar or a coward."
 -(Sahih al-Bukhari V1, P394)

حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا ہے تھے کہ جو شخص

عن ابی سعید الخدری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَخْطُبُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اسْتَعْفَ

سوال کرنے سے بچنے کا اللہ اس کو
 بچائے گا اور جو شخص استغنا اختیار
 کرے گا اللہ اس کو غنی کرے گا اور جو
 شخص ہم سے مانگے ہم اسے دیں گے
 یا اس کے ساتھ ہم مدد دی کریں گے۔

يعفه الله من استغنى
 يعفه الله ومن سألنا
 امان نبدل له و امان
 نواسيه (المحدث)
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۴۲)

Abu Sa'īd al-Khudri رضي الله عنه has reported the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying during the sermon at Friday prayer: "Allāh the Almighty will protect him who refrains from begging. Whosoever can manage without it, Allāh the Almighty will enrich him. Whosoever asks anything of us, we will either grant him what he asks for or console him."

-(Musnad Imam Ahmad bin Hanbal V3, P44)

حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ حضرت ابواسید
رضي الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوتا
 آپ اسے کبھی رد نہ فرماتے بلکہ آپ
 سوال کو پورا کرتے۔

عن عبد الله بن ابى بكر
رضي الله عنه ان ابا اسيد رضي الله عنه
 كان يقول وكان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنع شيئاً
 يسأله -

قلت رواه احمد في حديث طويل،
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۹ ص ۱۳

Hadrat 'Abdullāh bin Abu Bakr رضي الله عنه has reported Hadrat Abu 'Usayd رضي الله عنه as often saying: "The Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم never refused any request made of him. Rather, he granted it."

-(Majma' Al-Zawā'id & Manba' Al-Fawā'id V9, P13)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِأَخِيهِ الْإِسْمَاءِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الرَّاضِينَ وَعَنْهُمْ وَعَدِّمْ عَنِ الْمَلِكِ مَنْ
 وَعَدِّمْ عَنِ الْمَلِكِ مَنْ وَعَدِّمْ عَنِ الْمَلِكِ مَنْ وَعَدِّمْ عَنِ الْمَلِكِ مَنْ وَعَدِّمْ عَنِ الْمَلِكِ مَنْ

سَيِّدِنَا الْأَبَرُّ

عمرائے سُرَّار تمام جہان سے نیک دُرُودِ سَلَامِ مَحَبِّهِ لَللَّهِ أَجْب

Sayyidunā AL-ABARRU صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Pious صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

باب بر، یبر سے اسم تفضیل کا
 صیغہ ہے جس کا معنی سب جہان
 سے نیک ہے۔ بر کے لفظ کا سچی
 بات پر اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث
 میں آتا ہے، انسان سچ ہمیشہ بولتا
 رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک
 بَارًا سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔
 حضور اقدس صَلَّوْهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ زیادہ لائق ہیں
 کہ آپ سے زیادہ نیک ہیں
 سب سے سچے ہیں اور سب سے زیادہ
 احسان کرنے والے ہیں

افعل تفضیل من
 بررت فلانا بالکسر ابرہ
 برا فانا بر وبار ای محسن
 ویطلق علی الصّدق
 حدیث لا یزال الرجل یصدق
 حتی یکتب عند اللہ باراً
 وهو صَلَّوْهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حرّی
 ان یكون ابر الناس و
 اصدقهم واکثرهم احساناً
 قال ابو علی الحاتمی
 اتفق اهل الأدب علی

ابوعلی حاتمؓ کا بیان ہے کہ
 اہل ادب کا اس بات پر اتفاق
 ہے کہ سب سے سچا شعر ابویاسؓ
 کا ہے جس میں حضور اقدس ﷺ
 کی مدح کرتا ہے:
 کسی اونٹنی نے محمد ﷺ سے بڑھ
 نیک وعدہ و فائدہ انسان کو اپنے پورا نہیں کیا۔

ان اصدق بیت قالتہ
 العرب قول ابی
 یاس الدؤلۃ :
 فما حملت من ناقة فوق رحلہا
 ابروا و فی ذمۃ من محمد
 (شرح المواہب الدنیۃ للزرقانی
 ج ۳ - ص ۱۱۹)

The Arabic word 'abarr' is a superlative degree of *barartu* meaning 'the most pious' and 'the most truthful'. It is derived from the verb 'barra', which means 'to be pious' and 'to be truthful'. The word 'birr', derived from the same root, means 'piety' and 'truth'. It is quoted in one Hadith that when someone speaks nothing but the truth, Allāh the Almighty rewards him with the title of *Bārr*, that is 'the Truthful'. Indeed the Messenger of Allāh the Almighty ﷺ is most deserving of the title, for he was the most pious, the most truthful and the most generous.

Hadrat Abu 'Ali Al Hātimi رضی اللہ عنہ states that all the learned scholars of Arabic literature agree upon one thing: that there is no truer verse of Arabic poetry than that which came from Abu Iyās al-Du'li who praised the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as follows: "No she-camel has ever given ride to one more pious and more faithful than the Holy Prophet Muḥammad صلی اللہ علیہ وسلم."

-(Sharh Al-Mawāhib Al-Ladunyah by Al-Zarqāni V3, P119)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو
 حضور اقدس ﷺ کو کبوتری کے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
 قال لما فتحت خیبر اھدیت
 للنبی ﷺ شاة فیہا

گوشت میں لہر دیکر یہودیوں نے دعوت
 کی حضور اقدس صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا یہ
 سامنے یہودیوں کو اکٹھا کر دو وہ اکٹھے ہو گئے
 آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بتا
 پوچھتا ہوں، کیا تم اسکے بارے میں
 مجھے سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا
 لے ابو القاسم ہاں! (ہم آپ کو
 سچ بتائیں گے) آپ نے اُن کو فرمایا
 تمہارا جدِ اعلیٰ کون ہے؟ انہوں
 نے کہا کہ ہمارا جدِ اعلیٰ فلاں ہے
 آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ
 بولا بلکہ تمہارا جدِ اعلیٰ فلاں ہے۔
 انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ بولا
 اور آپ واقعی نیک ہیں۔

سو فقال رسول الله
 صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجمعوا لي من كان
 ها هنا من يهود فجمعوا له
 فقال النبي صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اني سائلكم عن شيء
 فهل انت صادق عنه؟
 قالوا نعم، يا ابا القاسم!
 فقال لهم رسول الله صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 من ابوكم؟ قالوا ابونا
 فلان فقال رسول الله
 صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذبتم بل
 ابوكم فلان. قالوا
 صدقت وبررت -
 (تاريخ ابن كثير ج ۳ ص ۲۰۸)

It is reported on the authority of Ḥadīrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "When Khaybar was conquered, its Jewish residents presented to the Almighty Allāh's Apostle صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a poisoned piece of mutton for dinner. So the Almighty Allāh's Messenger صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ordered all the Jews to gather before him, and questioned them thus: 'If I ask you something, will you answer me truthfully?' They replied: 'Yes, O Abu Al-Qāsim!' The Almighty Allāh's Apostle صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asked them: 'Who is your ancestor?' They replied: 'So and so is our ancestor.' The Almighty Allāh's Apostle صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ told them: 'You are lying; your ancestor was not the one you have mentioned but it was so and so.' The Jews replied: 'Indeed you have spoken the truth and you are virtuous.'" - (Tārīkh Ibn Kathīr V4, P208)

حضرت سعد رضي الله عنه آپ کے
پچھے آئے اور عرض کیا اے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر میرے
ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے
جتنی دفعہ سلام فرمایا میں نے اپنے
کانوں سے سنا اور اس کا جواب
بھی دیا لیکن میں نے آپ کو نہیں سنا
میری خواہش تھی کہ میں آپ کے
سلام کو کثرت سے وصول کروں اور
برکتیں لوں۔ پھر وہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے اور شمس اور
منقی آپ کے آگے رکھا حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منقی تناول فرمایا،
جب فارغ ہو گئے تو فرمایا تمہارا
کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور
تم پر فرشتوں نے درود بھیجا اور
تمہارے پاس روزہ داروں نے
روزہ افطار کیا۔

امی ما سلمت تسلیمۃ الاهی
بأذنی ولقد رددت علیک
ولم اسمعک احببت ان
استکثر من سلامک ومن
البرکۃ ثم ادخله
البیت فقرب له زیبا
فاکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلما فرغ قال اکل
طعامکم الابرار وصلت
علیکم الملائکۃ
و افطر عندکم
الصائمون -

(مسند الامام احمد بن حنبل)

۳۶ - ۱۳۸)

Hadrat Anas رضي الله عنه is quoted to have said: "Once the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم went to Sa'ad bin Ubāda's (رضي الله عنه) residence. He صلی اللہ علیہ وسلم said: 'Assalāmu Alaykum Wa Rahmatullāh' and asked permission to enter. Hadrat Sa'ad رضي الله عنه quietly returned his salutation by saying: 'Wa Alayk-as-Salām.' But the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم did not hear it. Three times the Almighty Allāh's Apostle said 'Salām'

and three times Sa'ad replied quietly. So the Almighty Allāh's Apostle ﷺ turned to go back. Upon seeing this Sa'ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ followed him saying: 'O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ! May my father and mother be sacrificed for you! I did indeed hear you say *Salām* with my own ears, but I did not let you hear my replies. This was due to my earnest desire to receive your blessings by hearing you say *Salām* over and over again.'

"He then took the Almighty Allāh's Apostle ﷺ into his house and offered fresh sultanas and raisins to him (ﷺ). When the Almighty Allāh's Messenger ﷺ had finished eating, he ﷺ said: 'The pious people have eaten your food, the angels have showered blessings upon you, and those fasting have broken their fast at your place.'"

-(Musnad Imām Ahmad bin Hanbal V3, P138)

اور آپ ہی اس بات کے لائق ہیں کہ
 آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ہو گئے
 آپ میں احسان اور سچائی کے وہ
 اوصاف جمیلہ جمع کیے گئے ہیں
 جو کسی انسان میں موجود نہیں
 حضرت ابو علی حاتمى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ہیں کہ اہل ادب نے اتفاق کیا ہے
 کہ سب شعروں میں سچا شعر جو عربوں
 نے کہا ہے وہ ابو ایاسؓ ولی کا شعر
 ہے:

"اور کسی اونٹنی نے محمد ﷺ
 سے بڑھ کر نیک اور مددگار
 انسان کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔"

وہو ﷺ حرى
 بان يکون ابر الناس
 لما جمع فيه من الخصال
 الجميلة التي لم تجمع
 في مخلوق والاحسان
 والصدق - قال ابو على
 الحاتمى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تفق اهل
 الأدب على ان اصدت
 بيت قالته العرب قول
 ابى ایاس الدؤلبي :

وما حملت من ناقة فوق رحلها
 ابروا في ذمة من محمد

(سبل الهدى ج ۱ ص ۵۱۶)

The title 'the most pious of all' befits most the Almighty Allāh's Apostle ﷺ for he possessed the beautiful qualities of generosity and honesty, the like of which were not to be found in any other created beings.

Ḥaḍrat Abu 'Alī Ḥātīmī رضي الله عنه has stated that the scholars of Arabic literature all agree that the most truthful verse of poetry the Arabs have ever recited is that of Abu Iyās al-Du'li, which reads: "No she-camel has given ride to one more virtuous and more faithful than Prophet Muḥammad ﷺ."

-(Subul Al-Huda V1, P516)

حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها
 نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ
 سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت
 حسان رضي الله عنه نے کفار کی سبوحی ادا
 ان کی خوب مرمت کی اور خوب بدلہ لیا
 حضرت حسان رضي الله عنه نے یہ کہا:
 اے مخالف تو نے حضرت محمد ﷺ
 کی سبوحی ادا میں نے اس کا جواب دیا
 اور اس کا اللہ کے ہاں بدلہ ہے۔ تو نے
 حضرت محمد ﷺ جو نیک اور
 پرہیزگار اللہ کے رسول ہیں سبوحی عادت
 مبارکہ وعدہ وفا کی ہے کی سبوحی
 میرے ماں باپ اور میری عزت حضرت
 محمد ﷺ کی عزت پر قربان ہوں۔

عن عائشة رضي الله عنها
 قالت سمعت رسول الله
 ﷺ يقول يقول هجاءم
 حسان فشفوا واشتفى
 قال حسان رضي الله عنه :
 " هجوت محمدا فاجبت عنه
 وعند الله في ذاك الجزاء
 هجوت محمدا برا تقيا
 رسول الله شيمته الوفاء
 فان ابى والذتى وعرضه
 لعرض محمد منكم وفاء"
 (الصحيح لمسلح ٢- ص ٣٠)

Ḥaḍrat 'A'isha رضي الله عنها has reported the Almighty Allāh's Messenger ﷺ as saying: "Ḥassān ridiculed the Unbelievers and thus satisfied his thirst for revenge."

Ḥaḍrat Ḥassān رضي الله عنه added: "O opponent, you have ridiculed my dearly beloved Prophet Muḥammad ﷺ. So I have responded on his behalf, and for this I will be rewarded by Allāh the Almighty. You ridiculed my dearly beloved Prophet Muḥammad ﷺ who is pure, virtuous, the Apostle of Allāh the Almighty, whose nature is faithfulness. May my father's, mother's and my own honour be sacrificed for the protection of his honour."

-(*Saḥīḥ Muslim V2, P300*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلِمِهِمْ وَمَنْ تَلَمَّذَهُمْ
 وَمَنْ وَعَدَّ عَلَيْهِمْ وَجِبْنَ قَلْبِكَ وَبَشَّرْتَهُمْ وَمَا دَعَاكَ اسْتَشْفَاكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا الْإِبْطَاحِيُّ

ہمارے سردار بطحاء کے رہنے والے دروڑ مسلمان مجھے اللہ سے

Sayyidunā AL-ABṬAHIYYUN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Resident of Al-BATHĀ' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

مکہ مکرمہ کی ابطح کی طرف
 نسبت ہے اور بطحاس وادی کا
 نام ہے جہاں سے پانی گزرے
 عرفات اور منیٰ کا بارش والا پانی
 چونکہ شہر مکہ سے گزرتا ہے لہذا اسکو
 وادی بطحہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس
 بنا پر رکھا گیا ہے کہ آپ اُس قریش
 خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو وادی
 بطحہ میں رہتے تھے، حرم سے باہر
 نہ تھے اور آپ کے دادا عبدالمطلب
 کو سیدالابطح اور سیدالابطح کہا جاتا تھا

نسبہ الی ابطح مکہ و هو
 مسیل وادیها و هو ما بین
 مکة و منیٰ و مبدؤہ
 المحصب سمی بذلک لانه
 من قریش البطاح ای
 النازلین بالبطاح دون
 الظواہر التي هی خارج
 الحرم حول مکة و کان
 یقال لعبد المطلب سید
 الابطح و الابطاح
 و قال حسان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي

رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت حنان رضي الله عنه آپ کی
 مدح میں فرماتے ہیں:
 آپ معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں
 داوا کی طرف سے بزرگ اطمی سردار ہیں

مدحه صلواته عليه وسلم:
 واکرم بيت في البيوت اذا
 انتمى - واکرم حبدأ
 ابطحى يسود
 (شرح الرهبان اللدنية ج ۳ - ص ۱۱۹)

Al-Baḥā' is the name of the Valley of Makkah, so called because the flood waters of 'Arafāt' and 'Minā' pass Makkah through it. The valley lies between Makkah and Minā. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ is called by the above name because he belonged to the Quraish tribe who lived in *Al-Baḥā'* valley within the boundaries of the *Haram* around Makkah. The Holy Prophet Muḥammad's (ﷺ) grandfather used to be called *Sayyid Al-Baḥā' wal Abāteḥ'* (the Leader of *Al-Baḥā'*). Ḥadrat Ḥassān رضي الله عنه says in the praise of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ: "O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ, you belong to the most distinguished and honourable house. You are indeed the chief of the *Al-Baḥā'* valley, from the descent of your grandfather, the noblest of all ancestors."

-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladunya V3, P119)

اطمی قریش وہ ہیں جو مکہ مکرمہ
 کے دونوں کناروں کے درمیان
 بستے ہیں۔

وقریش البطاح الذين يزلون
 بين احشبي مكة -
 (قاموس ج ۱ - ص ۲۱۶)

Al-Abḥāḥī Quraishites were those who lived within the boundaries of Makkah.

-(Al-Qāmūs V1, P216)

حضرت جابر رضي الله عنه سے
 روایت ہے، فتح مکہ کے زمانے میں

عن جابر ان النسبى
 ﷺ امر عمر بن

حضور اقدس ﷺ نے
 وادی بطحاء سے حضور عمر فاروق
 کو حکم دیا کہ کعبہ جا کر جو بت وہاں ہیں
 ان کو ختم کر دیں اور حضور اقدس
 ﷺ خانہ کعبہ میں اترتے
 تک داخل نہ ہوئے جب تک تمام
 بت مسمار نہ کر دیے گئے

الخطاب زمن الفتح وهو
 بالبطحاء ان يأتي الكعبة
 فيحرق كل صورة فيها ولم
 يدخلها النبي ﷺ
 حتى محيت كل صورة
 فيها -

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۲۲۲)

Hadrat Jābir رضي الله عنه has narrated: "When Makkah was conquered, the Almighty Allāh's Prophet ﷺ ordered Hadrat 'Umar رضي الله عنه, who was in the valley of *Al-Baṭḥā*, to go to the Holy Ka'aba and destroy all the idols that lay inside. The Holy Prophet Muḥammad ﷺ did not enter the Holy Ka'aba until all the idols had been destroyed."

-(*Al Ṭabaqāt al-Kubrā* by Ibn Sa'ad V2, P242)

حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 حج سے فارغ ہونے کے بعد جب
 مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے تو آپ نے
 وادی بطحاء میں رات گزارنے تکلیف
 کو ٹھکنے میں سہولت ہو۔

عن عائشة رضي الله عنها
 قالت انما كان منزلا
 سينزله النبي ﷺ
 ليكون اسمح لخروجه
 قسنى الابطح -

(الصحيح للبخاري ج ۱ ص ۲۳۷)

Narrated Hadrat 'A'isha رضي الله عنها : "When, after the performance of Hajj, the Holy Prophet ﷺ set out to Madina Al-Munawwara, he stayed over night at *Al-Abṭah* for it was easier for him to depart from there."

-(*Saḥīḥ Al Bukhārī* V1, P237)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِ الْعَالَمِينَ
 وَمَنْ دَعَاكَ دَعْوَةً دَعَاكَ عَلَيْكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ وَمِنْ أَيْمَانِكَ وَمِنْ شِمَائِلِكَ
 وَمِنْ أَسْفَلِكَ وَمِنْ أَسْفَلِ عِلْمِكَ وَرَبِّكَ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدُنَا اِبْلَاجُ

ہمارے سردار سفید رنگ والے درویش مسلمانوں کے سربراہ

ﷺ Sayyidunā ABLAJU
 (Our Leader of Fair Complexion ﷺ)

سفید رنگ والے، بڑی پاکیزہ
 ہستی۔

الابيض الاتقى
 الاجل۔
 (شرح المواہب اللدنیة ج ۱ ص ۱۲۳)

He ﷺ was of fair (i.e. radiant) complexion, full of splendour and the most pious of all creation.
 -(Sharh Al-Mawahib Al-Laduniya V3, P123)

حضرت اُمّ معبد رضی اللہ عنہا کا
 بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے
 انسان کو دیکھا جس کے چہرہ انور پر
 رونق تھی، سپید، سُسن کے پیکر
 تھے۔

قالت اُمّ معبد رضی اللہ عنہا
 رايت رجلا ظاهرا الوضاء
 ابلج الوجہ حسن المخلق۔
 (المحدث)
 (المستدرک للحاکم ج ۳ ص ۹)

Hadrat Umm-Ma'bad رضی اللہ عنہا has stated: "I saw him as a man of brilliant appearance, whose face was

completely bright and clear; and he was most handsome."

-(Al-Hadith: Al-Mustadrak by Al-Hākim V3,P9)

حضرت امّ معبد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
حدیث میں جو حضور اقدس صَلَّوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کی صفت میں ابلج الوجه کا
لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے چمکدار
چہرہ۔

و فی حدیث ام معبد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
فی صفة النبی صَلَّوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابلج الوجه ای مشرق۔
(صراح ج ۱ ص ۱۳۸)

The word 'ABLAJ' has been used to describe the beautiful complexion of the Apostle of Allāh the Almighty صَلَّوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "Ablaj-ul-Wajhu" as used in Hadith quoted by Hadrat Umm-Ma'bad رَضِيَ اللهُ عَنْهَا means an effulgent face that is radiant.

-(Surāh V1, P138)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لِأَخِيهِ الْأَبَا عَبْدِ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَا وَمَوْلَايَا وَجَدَيْيَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْهُ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ
 وَهْدٌ وَخَلْقٌ وَجَنُّ نَسْلِكَ وَيَسْتَعِينُكَ وَيَدَاؤُكَ كُلُّ ذَلِكَ اسْتَفْضِلْهُ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْهُ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ وَهْدٌ وَخَلْقٌ وَجَنُّ نَسْلِكَ وَيَسْتَعِينُكَ وَيَدَاؤُكَ

سَيِّدُنَا الْأَبْيَضُ

ہمارے سردار سپید دروڑ و ملا بھیجے اللہ پے

Sayyidunā AL-ABYADU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader with the White Complexion)
 (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت علی المرتضیٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ آپ حضور اقدس
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفید رنگ تھے ہمیں
 سُرخ ملی ہوئی تھی۔

عن علی كرم الله وجهه
 انه قال كان رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابيض مشربا
 بجمرة - (اخرجه ابوحاتم -
 شرح الشفا للملا على قارى - على حاشية
 نسيم الرياض ج ٢ - ١٦٩)

Ḥaḍrat 'Ali Al-Murtaḍā رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has narrated: "The Holy Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was of a white, ruddy complexion."

-(Abu Ḥātim in Sharḥ Al-Shifā of Mulla 'Ali Qāri - on the margin of Nasīm Al-Riyāḍ V2, P169)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 انه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ابيض

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 سَفِيدِ رَنْجِ تَحِيَّ

اللون - (اخرجه ابو حاتم)

شرح الشفاعة لآل علي قارى على حاشية
 نسيم الرياض ج ٢ ص ١٦٩

Ḥaḍrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا has narrated: "The Holy Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was of a white complexion."

-(Abu Ḥātim in Sharḥ Al-Shifā of Mulla 'Alī Qāri - on the margin of Nasīm Al-Riyāḍ V2, P169)

ابوطالب بن عبدالمطلب كته

ہیں۔ اور سفید رنگ، جن کے چہرہ کی
 برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے

یتیموں کی پناہ گاہ اور یتیموں کے حامی
 شمال کا معنی ستون اور جتنے پناہ
 فریاد سننے والا، اعانت کرنے والا
 ان تمام معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا
 ہے۔

عصمة کا معنی بیواؤں کی تکلیفوں
 کو دور کرنے والا ہے۔

قال ابوطالب بن عبدالمطلب:

وابيض يستسقى الغمام بوجهه
 شمال اليتامى عصمة للارامل

قوله شمال بكسر
 المثلة وتخفيف الميم

هو العماد والملجاء و

المطعم و المعين و المعين

و الكافي قد اطلق على

كل ذلك عصمة للارامل

اي يمنهم مما يضرهم

(فتح الباری مصری ج ٢ ص ٢٩٦)

Ḥaḍrat Abu Ṭalīb bin 'Abdul Muṭṭalīb states: "The Holy Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was of fair complexion by whose face rain-fall is beseeched. He was the protector of orphans and supporter of widows.

The word *Thimāl* is of the Arabic root meaning 'pillar and a place of refuge', 'listener of requests', and 'helper'. The word *Ismah* suggests that he always took steps to protect widows from any harm."

-(Faṭḥ Al-Bāri Miṣri V2, P496)

آپ حضورِ اقدس ﷺ کا
 رنگ مبارک روشن و تاباں تھا۔
 تمام اصحاب رضوانہ اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق
 ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا اور
 اس کو انہوں نے ابیض کے ساتھ
 بیان کیا ہے۔

اللون أنحدرت روشن و
 تابان بود و اتفاق دارند جمہور
 اصحاب بر بیاض لون آل ﷺ
 و وصف کردند او را با بیض۔
 (مدارج النبوة ج ۱ ص ۲۶)

The Holy Prophet Muhammad's (ﷺ) complexion was white and radiant. All companions of the Holy Prophet ﷺ agree that he was of a white complexion, and they described it as *ABYAD*, which connotes luminous white.

-(Madārij Al-Nubuwwah V1, P26)

حضرت انس بن مالک رضوانہ اللہ علیہ
 حضورِ اقدس ﷺ کی صفت مبارک
 بیان کرتے ہیں کہ آپ سفید تھے،
 اور آپ کی سفیدی گندم گوں
 تھی۔

عن انس بن مالك
 رضوانہ اللہ علیہ يقول في صفة
 النبي ﷺ قال
 كان ابيض بياضه
 الى السمرة۔
 (تاريخ ابن كثير ج ۶ ص ۱۳)

Hadrat Anas bin, Mālik رضوانہ اللہ علیہ reports: "He ﷺ was of a white complexion but the whiteness was slightly tanned."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P13)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِقَاءَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبَتِهِ بَعْدَ وَعْدِ مَلَكُوتِكَ
 وَمَنْ دَعَاكَ وَجَّهًا نَسَّكَ وَرَبِّتَكَ مِنْكَ وَمِنَادَكَ كَمَا لَمْ يَسْتَقْبَلْهُ اللَّهُ الْعَلِيِّ لَمْ يَلَمْ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ وَالْمَاءُ الْيَوْمَ

سَيِّدِنَا الْأَتْقَى

ہمارے سردار سب سے زیادہ پرہیزگار درود و سلام بھیجئے اللہ آپ پر

Sayyidunā AL-ATQĀ ﷺ
 (Our Leader the Most Righteous ﷺ)

حضرت عطاء بن یسار ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عطاء کو بتایا کہ اُس نے زمانہ رسالت مآب ﷺ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا، پھر اُس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسی بابت حضور اکرم ﷺ سے پوچھے۔ اس نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھی یہ کرتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے غلام کو بتایا تو اس انصاری نے کہا کہ حضور اقدس ﷺ کیلئے بعض چیزوں

عن عطاء بن یسار عن رجل من الانصار ان الانصاري اخبر عطاء انه قبل امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهو صائم فامرأته فسألت النبي ﷺ عن ذلك فقال النبي ﷺ ان رسول الله يفعل ذلك فاخبرته امرأته فقال ان النبي ﷺ يرخص له في اشياء فارجمي

کی نخصت دی گئی ہے تو دوبارہ جا کر دریافت کر وہ پھر حضور اکرم ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا خاوند کتنا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے بعض چیزوں کی نخصت دی گئی ہے۔ پھر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جانتا ہوں۔

اليه فتولى له فرجبت
 الى النبي ﷺ
 فقالت قال ان النبي
 ﷺ يرخص له في
 اشياء فقال انا اتقاكم
 لله و اعلمكم بحدود الله
 (مسند امام احمد بن حنبل ج 5 ص 334)

Ḥadhrat 'Atā' bin Yassār رضي الله عنه has reported an *Anṣārī* as having narrated to him the following: "I kissed my wife while fasting at the time of the Almighty Allāh's Prophet ﷺ. As I was doubtful about the lawfulness of my action, I asked my wife to take up this matter with the Almighty Allāh's Prophet ﷺ. The Almighty Allāh's Prophet ﷺ told her that he himself had done it at times. Hearing this message coming as it did from the Prophet of Allāh the Almighty ﷺ, the husband, i.e. the Anṣārī, argued with his wife that it might be that Allāh the Almighty had exempted His Prophet ﷺ from certain common rules. So he told his wife to go back to clarify it further with the Almighty Allāh's Prophet ﷺ. She returned to the Almighty Allāh's Prophet ﷺ and said, 'O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ, might Allāh the Almighty have exempted you from certain obligations of religion that we are bound to obey?'

"At this the Almighty Allāh's Prophet ﷺ reassured her by saying: 'It is I who fears Allāh the Almighty the most among you (*Atīqa*), and I know most about the limits laid down by Allāh the Almighty.'"

-(Musnad Imām Ahmad bin Hanbal V5, P434)

ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے کہا تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں
 نے فرمایا کہ کبھی تو کانٹوں والی زمین پر چلے ہے؟
 اس نے کہا کہ ہاں! آپ نے فرمایا تو
 کیسے چلتے تھے؟ اس نے کہا کہ جب میں
 کانٹا دیکھتا ہوں تو اُس سے الگ ہتے جاتا
 ہوں یا میں اُس پر سے چھلانگ لگا کر
 گزر جاتا ہوں یا میں اُس سے درپے پاؤں
 رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہی تقویٰ ہے

قال رجل لابي
 هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما التقوى ؟
 قال اخذت طريقتا اذا
 شوك ؟ قال نعم قال
 كيف صنعت ؟ قال اذا
 رايت الشوك عدلت عنه
 او جاوزته او قصرت
 عنه قال ذا التقوى -

(رواه ابن ابى الدنيا في كتاب التقوى سبل الحج ٥١٨)

Once a man asked Ḥaḍrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "What is piety (Taqwā)?" Ḥaḍrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ asked him: "Have you ever walked along a path full of thorns?" He replied: "Yes." Ḥaḍrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ asked him again: "How do you manage to walk along such a path?"

He replied: "When I see a thorn I try to swerve around it or step over it or pass it by."

Ḥaḍrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ عَنْهُ said: "That is Taqwā."
 -(Subul Al-Hudā V1, P518)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 اس (تقویٰ) کے بارے میں سوال کیا گیا تو
 انہوں نے کہا کہ تقویٰ رب جلیل سے
 خوف کھانے کا نام ہے اور معنی آسمی پر
 عمل کرنا اور تھوٹے پر قناعت کرنا
 اور موت کے دن کیلئے تیاری کرنا ہے

سئل علی كرم الله وجهه عنها
 قال هي الخوف من الجليل
 والعمل بالتنزيل والقناعة
 بالقليل والاستعداد ليوم
 الرحيل -

(سبل الهدى ج ١ ص ٥١٩)

Once Ḥaḍrat 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ was asked to define Taqwā. He said: "It means to fear Allāh the Almighty; to act

according to His revelation (i.e. to follow the teachings of the *Holy Qur'ān*), to be content with the minimum, and to be prepared for the day when one breathes one's last."

-(*Subul Al-Hudā V1, P519*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِرَحْمَةِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْتِهِ بِعَدْوَى كُلِّ مَلَكٍ أَنْ
 يَمُدَّ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَمَرِّحِكَ وَمَا ذَكَرْنَاكَ اسْتَعْفُو اللَّهُ الْبُغْيَ لِأَهْلِ الْأَكْثَرِ بِالْقُدْرَةِ وَالْمَنْ وَالْبُغْيَ

سَيِّدِنَا أَتَقَى النَّاسَ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ پرہیزگار دُور و مسلما بھیجے اللہ اپنے

Sayyidunā ATQA-AN-NĀS صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Most Righteous of All People صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا
 معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ
 پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا پورا
 خبردار ہے۔“

اشارہ الی قولہ:
 ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَى اللَّهَ
 عَلَيْهِ خَيْرٌ“
 (المحجرات ۱۳)

Reference to the Holy Qur‘ān:

..... Verily
 The most honoured of you
 In the sight of Allāh the Almighty
 Is (he who is) the most
 Righteous of you.
 And Allāh the Almighty has full knowledge
 And is well acquainted (with all things).
 -(Al-Hujurāt 49:13)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

لے نبی! اللہ سے ڈرتے رہیے
 اور کافروں کا اور منافقوں کا کہن
 نہ مانیے، بیشک اللہ تعالیٰ بڑا
 علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ
 وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
 (الاحزاب ۱)

Reference to the Holy Qur'an:

O Prophet (ﷺ)!
 Fear Allāh the Almighty
 And hearken not to the unbelievers
 And the hypocrites:
 Verily Allāh the Almighty is full
 Of knowledge and wisdom.
 -(Al-Ahzāb 33:1)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے روایت ہے کہ حضرات اس
 ﷺ کاٹھے کھدکے دو کپڑے
 پہنے ہوئے تھے جب آپ بیٹھے
 تو پسینہ سے شرابور ہو جاتے ایک
 یہودی کا کپڑے کا مال شام سے آیا میں
 عرض کیا کہ ”آپ کسی آدمی کو اس
 یہودی کے ہال بھیج دیں اور اس سے
 دو کپڑے آسان مدت تک ادھار
 خرید لیں۔“ پھر آپ نے اس (یہودی)
 کے پاس آدمی بھیجا تو اس نے کہا کہ
 میں جانتا ہوں جو ان کا ارادہ ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها
 قالت كان على رسول الله
 ﷺ ثوبين قطريين
 غليظين فكان إذا
 قد ففرق ثقلا عليه
 فقدم بز من الشام
 لفلان اليهودي فقلت
 لو بعث اليه فاشترت
 منه ثوبين الى
 الميسرة فارسل اليه
 فقال قد علمت ما يريد
 انما يريد ان يذهب

ان کا ارادہ ہے کہ میرا مال ہضم کر جائیں
 یا میری رقم و باجائیں۔ تو اس پر حضور
 اقدس ﷺ نے فرمایا کہ وہ بھوٹ
 بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں ان سب
 سے زیادہ متقی ہوں اور میں ان سب سے
 زیادہ امانت دار ہوں۔

ہمالی او بد راہی فقال
 رسول الله ﷺ
 كذب قد علم
 اني من اقاتهم
 و اذاهم للامانة -
 (جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۳ - سنن السانی ج ۱ ص ۱۹۹)

Hadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا narrates: "Once the Almighty Allāh's Prophet ﷺ was dressed in two pieces of Qatri, heavy and coarse garments. So when he was sitting, he perspired heavily in them."

Hadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا asked the Almighty Allāh's Prophet ﷺ: "Why do you not send somebody to buy two pieces of cloth on credit from a Jew who has imported cloth from Syria?"

So the Almighty Allāh's Apostle ﷺ sent a messenger to the Jew who said to the messenger of Allāh the Almighty ﷺ: "I know what the Prophet has in mind. He intended to take the goods for nothing or cheat me of my money."

When the Almighty Allāh's Apostle ﷺ heard the Jew's insinuation he said: "The Jew is lying. He knows that I am the most pious (Atqā) and trustworthy of all people."

-(Tirmidhi V1, P146; Sunan Nisāi V2, P199)

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر
 بات پہنچی ہے کہ لوگوں نے میری سی باتیں
 کی ہیں۔ اللہ کی قسم! البتہ میں سب سے
 زیادہ نیک ہوں اور اللہ عزوجل کے

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 قال قام النبي ﷺ
 خطيباً فقال بلغني ان
 اقواماً يقولون كذا
 وكذا والله لانا ابتر
 اتقى الله عز وجل منهم.

بلے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔



(الحديث)

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۳)

Hadrat 'Abdullāh bin 'Abbās رضی اللہ عنہما has reported the Prophet of Allāh the Almighty ﷺ as having delivered a sermon, saying: "I have been informed that some people have said such and such things (against me). By Allāh the Almighty, I am more pious and fearful of Allāh the Almighty than they are!"

-(*Sahih Al-Bukhari V1, P340*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَقَامَ اللَّهُ لِرَجُلٍ لَوْ حَقَّقَهُ الْإِنْسَانُ اللَّهُ
 الْبُؤْسَ وَالسُّقْرَةَ وَأَرَبَطَهُ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الشَّيْءِ الْأَعْيُنِ وَعَلَى الْإِلَهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ مَعَهُ عَلَى مَشْهُومِ أَنْ
 وَمَنْ وَعَلَّقَتْ وَجْهَ نَبِيِّكَ ﷺ وَمَنْ دَاخَلَكَ اسْتَفْوَافَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ وَأَمَّا الْإِلَهُ

سَيِّدُكَ أَهْلُ الْبَيْتِ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ ثابت قدم درود سلام بھیجے اللہ پر

ﷺ Sayyidunā ATHBAT-UN-NĀS
 (Our Leader Most
 Persevering of All People ﷺ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ نے فرمایا مجھے لوگوں
 پر سخت پکڑ کے باعث فضیلت دی گئی ہے

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال
 قال رسول الله ﷺ فضلت
 على الناس بشدة البطش
 (رواه ابوزرعته تابع ابراهيم بن من)

Hadrat Anas bin Mālik رضي الله عنه has reported the
 Almighty Allāh's Prophet ﷺ as saying: "Allāh the
 Almighty has granted me honour over all men for
 perseverance in confronting the most formidable
 afflictions or trials." - (Tārīkh Ibn Kathīr V6, P60)

اور حنین کے دن جب تمام
 لوگ بھاگ گئے اور وہ بارہ ہزار تھے
 آپ صرف سو آدمیوں کے ساتھ
 ثابت قدم رہے اور آپ اس دن خیر پُر

و يوم حنين ولي الناس
 كلهم وكانوا يومئذ اثناعشر
 الفاً وثبت هوفي نحو من
 مائة من الصحابة وهو راكب

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ مَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

سوائے تھے اور اس خچر کو دشمنوں کی طرف
 آگے بڑھا ہے تھے اور آپ اپنا
 نام باواز بند لے رہے تھے اور فرما
 رہے تھے کہ میں نبی ہوں، چھوٹا
 نہیں ہوں اور میں عبدالمطلب کا
 پوتا ہوں۔

يومئذ بغلته وهو يركض بها
 الى نحو العدو وهو ينوه
 باسمه ويعلن بذلك قائلاً
 انا النبي لا كذب انا
 ابن عبد المطلب -

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۷۰)

In the Battle of Hunain, when all the 12,000 people fled away the Almighty Allāh's Prophet ﷺ remained in the battlefield with only 100 of his companions. He was riding a mule and spurring her on towards the enemy, announcing loudly: "Here I am, Muḥammad ﷺ, the Prophet of Allāh the Almighty. I never lie. I am the grandson of 'Abdul Muṭṭalib."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P60)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَنْزِلِهِمْ وَمَنْ تَلَاهَا
 رَجَعَتْ رُوحُهُ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى قَبْرِهِمْ وَعَلَى كُلِّ ذِي بَلَدٍ اسْتَفْرَأَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَمَّا الْبُرُوقُ

سَيِّدِنَا
 أَجْرُ الْبَرِّ صَادِقًا
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ جرأت مند دُرُودِ سَلَامِ حَبِیبِ اللہ ہے

Sayyidunā
 AḤRA'UN-NĀSI ṢADRAN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Courageous
 of All Commanders صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ آن قبیلہ قیس کے
 کسی آدمی نے پوچھا کیا تم حنین کی
 جنگ میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کا ساتھ چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے
 کہا کہ لیکن حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نہیں بھاگے۔ ایک دوسری روایت
 میں ہے کہ میں گواہ ہوں کہ حضور
 اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میدان جنگ
 میں رہے اور ایک روایت میں ہے

عن البراء بن عازبٍ وسأله
 رجل من قيس افرتم عن
 رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم
 حنين فقال لكن رسول الله
 لم يفرو في رواية اما انا
 فاشهد على النبي انه
 لم يزل وفي احسرى
 لا والله ما ولي يوم
 حنين دبره -

(شرح الموهب اللدنية للزرقاني ج ۲ ص ۱۶)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(فتح الباری ج ۸ ص ۲۸) کہ اللہ کی قسم آپ نے حنین کے دن کھار کو پیٹھ نہیں دکھائی۔

Hadrat Bara' bin 'Azib رضی اللہ عنہ reported that someone from the Tribe of Qais asked him: "Have you run away from the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the Battlefield of Hunain?" He replied: "But the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not run away."

According to one narration he is reported to have said: "As for me, I bear witness that the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stayed in the battlefield and did not desert."

In another narration he says: "I swear by Allāh the Almighty that His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not run away at the Battlefield of Hunain."

-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladunya by Al-Zarqāni V3, P16; Fath al-Bāri V8, P28)

وفیہ رکوب البغلة اشارة
 الی مزید الثبات (فتح الباری ج ۸ ص ۳۲)
 خچر پر سوار ہونے میں حضور
 کے ثابت قدم ہونے کی طرف اشارہ ہے

His صلی اللہ علیہ وسلم riding on a mule is an indication of his further steadfastness.

-(Fath Al-Bāri V8, P32)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كُنَّا لِنَدْرِكَ لَوْحَةَ الْاِسْمَاءِ
 اللّٰهِ صَلَّوْا عَلَیْكَ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَرَبِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ لَا یُغْنِیْكَ
 وَوَعَدَ عَلَیْكَ وَوَعَدَ عَلَیْكَ وَمَا دَعَا لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ الَّذِیْ لَا لَهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

سَيِّدِنَا الْاَجَلُّ

ہمارے سردار بہت بڑے بزرگ دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ الْاَجَلِّ

Sayyidunā AL-AḤALLU صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Sublime صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ)

حضرت ابن شماسہ مہرمی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے پاس گئے اور ان کے ہتھال کا وقت قریب تھا آپ نے بہت دیر تک روتے رہے اور دلوں کی طرف منہ پھیر لیا۔ آپ کا بیٹا مانا تھا، اس نے کہا اے ابا جان! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جینا رسول اللہ ﷺ نے فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو حضور ﷺ نے فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی (پھر آپ ایسے کیوں

عن ابن شماسة المہرمی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حضرنا عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وهو في سيافة الموت يبكي طويلاً وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول له ما يبكيك يا ابتاه اما بشرتك رسول الله ﷺ بكذا اما بشرتك رسول الله ﷺ بكذا قال فاقبل بوجهه فقال ان افضل ما نعد

شهادة ان لا اله الا الله
 وان محمداً رسول الله
 انى قد كنت على اطباق
 ثلاثٍ لقد رأيتنى وما
 احد اشد بغضاً
 لرسول الله ﷺ
 منى ولا احب الى من
 ان اكون قد تمكنت
 منه فقتله منه فلو مت
 على تلك الحال لكنت
 من اهل النار فلما
 جعل الله عز وجل
 الاسلام فى قلبى ايتت
 النبى ﷺ فقلت
 ابسط يمينك فلأبأ بك
 فبسط يمينه قال
 فقبضت يدى
 قال مالك يا عمرو قال
 قلت اردت ان اشترط
 قال تشرط ماذا قلت
 ان يغفر لى قال اما علمت
 ان الإسلام يهدم ما

عَمَلِكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ
 غمگین ہوتے ہیں تب انہوں نے اپنا
 چہرہ ہماری جانب متوجہ کیا اور فرمایا ہمارے
 لیے بہترین توشہ تو اس بات کی گواہی
 دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود
 نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے
 رسول ہیں۔ میں تین ادوار سے گزرا ہوں
 ایک دور تو وہ تھا کہ مجھے جناب رسول اللہ
 ﷺ سے زیادہ کسی سے بغض نہ
 تھا اور کوئی چیز میری نظر میں اتنی محبوب
 تھی جتنی یہ بات عیاذاً باللہ کہ حضور اکرم
 ﷺ پر مجھے قدرت حاصل ہو جا
 اور میں آپ کو شہید کر ڈالوں اگر میں
 اس حالت میں مر جاتا تو یقینی طور پر زنی
 ہوتا۔ پھر (دوسرے دور وہ تھا کہ) جب اللہ
 عزوجل نے اسلام کا خیال میرے دل میں
 پیدا کیا اور میں حضور اقدس ﷺ
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ
 اپنا ہاتھ بھیلانے تاکہ میں آپ کی سبقتوں
 آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بھیلادیا تو میں
 نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے فرمایا عرو
 کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ
 شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط ہے

كان قبله وان الهجرة
 تهدم ما كان قبلها
 وان الحج يهدم ما كان
 قبله وما كان احده
 احب الى من رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا احب
 في عيني منه وما كنت
 اطيق ان املا عيني
 منه اجلا لآله ولو
 سئلت ان اصفه ما
 اطقت لاني لو اكن
 املا عيني منه ولو مت
 على تلك الحال لرجوت
 ان اكون من اهل
 الجنة شعر ولينا اشياء
 ما ادرى ما حالى فيها فاذا
 انامت فلا تصحبني نائمة
 ولا ناره فاذا دفتموني
 فشنوا على التراب شنأ
 شعر اقيموا حول قبرى
 قدر ما تنخر جزوه و
 يقسم لحمها حتى استانس

بیان کرو میں نے عرض کیا کہ میری سزا تہ
 گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا کیا تو
 نہیں جانتا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں
 کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پہلے تمام گناہوں
 کو ختم کر دیتی ہے اور حج تمام پہلی باتوں
 کو ڈھا دیتا ہے۔ (چنانچہ میں نے بیعت
 کر لی) اب جناب رسول اللہ ﷺ
 سے زائد مجھے کسی سے محبت نہ تھی اور
 نہ میری آنکھوں میں آپ سے زائد کوئی
 بڑا بزرگ تھا۔ میں آپ کی شان و جلال
 کے بارے آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھ
 سکتا تھا اور چونکہ پوسے طور پر چہرہ مبارک
 نہ دیکھ سکتا تھا اس لیے اگر مجھ سے حضور
 اقدس ﷺ کا حلیہ مبارک دریافت
 کیا جائے تو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں
 اسی حالت میں مرجاتا تو امید تھی کہ جنتی
 ہوتا۔ اس کے بعد ہم بہت سی باتوں کے
 ذمہ دار ہو گئے، معلوم نہیں میرا ان میں
 کیا حال ہے، گناہ اب میرے منے
 کے بعد میرے جنازہ کے ساتھ کوئی نوبت
 اور آگ نہ جائے اور جب مجھے دفن کر چکو
 تو میری قبر پر مٹی ڈال کر قبر کے چاروں طرف

بکم وانظر ماذا اراجع به
 رسل ربي - (اصح مسلم ج 1 - ص 1)

اتنی دیر ٹھہرے بنا، جتنی دیر میں اُڑت
 کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا
 تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو اور دیکھوں
 کہ میں اپنے رب کے فرستادہ فرشتوں کو کیا
 جواب دے سکوں گا۔

Hadrat Ibn Shamāsa al-Mahri رضي الله عنه has narrated:
 "We went to 'Amr bin Al-Ās رضي الله عنه who was on his
 death-bed. He wept for a long time. Then he turned
 his face towards the wall. His son asked him: 'O my
 dear father! Why are you crying? Didn't the Messenger
 of Allāh the Almighty ﷺ bring to you the glad
 tidings of such and such? Didn't he?' At this he ('Amr)
 turned to us and said: 'The best thing which we can
 count upon is the testimony that 'there is no god but
 Allāh the Almighty and that Muḥammad ﷺ is the
 Apostle of Allāh the Almighty'. Indeed I have gone
 through three stages: "At the first stage you saw that no
 one hated the Messenger of Allāh the Almighty more
 than I did, and that I wanted nothing more than to
 overpower him and kill him. Had I died in that state, I
 would have definitely been among those dwelling in
 hell-fire.

"The second stage was when Allāh the Almighty
 instilled the love of Islam in my heart, and I came to the
 Apostle of Allāh the Almighty ﷺ and said: 'Please
 stretch out your right hand so that I might pledge
 allegiance to you.' He ﷺ very kindly stretched out
 his right hand, but I kept a hold on mine. The Almighty
 Allāh's Apostle ﷺ asked: 'What is the matter with
 you, 'Amr?' I replied: 'I wish to set a condition.' 'What is
 your condition?' he ﷺ asked. I said: 'That my
 previous sins may be pardoned.' The Almighty Allāh's
 Apostle ﷺ said: 'Are you not aware of the fact that
 Islam wipes out all previous misdeeds? Indeed migration
 (for the sake of Islam, i.e. *Hijra*) wipes out all previous
 misdeeds. In the same manner, pilgrimage (*Hajj*) wipes

out all previous misdeeds.'

"After that, no one was dearer to me than the Messenger of Allāh the Almighty ﷺ, and no-one was more sublime in my eyes than him. I was never able to look at him fully out of respect for his splendour. So if I am asked to describe his features, I could not do so for I have never seen him fully. Had I died in that state, I would have every reason to hope that I would be among those dwelling in Paradise.

"Thereafter we were responsible for many things, because of which I am unable to know what is in store for me. Now as I die, let neither a female mourner, nor fire accompany me. When you bury me, fill my grave well with soil, then stand around it for as long as it takes to slaughter a camel and distribute its meat. This is so that I may enjoy your intimacy and, in your company, ascertain what answers I may give to the angels of Allāh the Almighty."

-(Saḥīḥ Muslim V1, P76)

عن عقبه بن عامر
 رَوَى اللَّهُ عَنِّي قَالَ بَيْنَا أَنَا وَقُودُ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي
 نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النَّقَابِ
 إِذْ قَالَ لِي يَا عَقْبَةُ الْإِ
 تْرَافِكُ قَالَ فَاجْلَلَتْ رِجْلُ
 اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرَكِبَ مَرْكَبَهُ
 ثُمَّ قَالَ يَا عَقْبُ الْإِتْرَافِكُ
 قَالَ فَاسْتَقْتِ أَنْ تَكُونِ
 مَعْصِيَةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ وَرَكِبْتُ هُنِيئَةً
 ثُمَّ رَكِبْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَقْبُ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور اقدس
 ﷺ کی سواری کو ان گھائیوں میں
 سے ایک گھائی میں لے جا رہا تھا
 اچانک آپ نے فرمایا اے عقبہ تو سوار
 کیوں نہیں ہوتا؟ عقبہ کا بیان ہے میں
 نے حضور اقدس ﷺ کو بہت عظیم
 تصور کیا کہ میں آپ کی سواری پر سوار
 ہوں پھر آپ نے فرمایا اے عقبہ تو سوار کیوں
 نہیں ہوتا؟ عقبہ کا بیان ہے کہ آپ
 میں ڈر کہیں یا فرمائی نہ ہو جا رہے آپ
 سواری سے اتر پڑے اور میں تھوڑی دیر

کھلے سوار ہو گیا پھر آپؐ ارنگے اور فرمایا
 عقبہؓ! کیا میں تجھے سورتوں میں سے
 بہترین سورتیں نہ سکھا دوں جن کو لوگوں نے
 پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ
 (ﷺ) ! حضرت عقبہؓ کہتے ہیں
 پھر مجھے آپؐ نے قل اعوذ برب الفلق و
 او قل اعوذ برب الناس پڑھائیں۔

الا اعلمك سورتين
 من خير سورتين قرأ
 بهما الناس قال قلت بلى
 يا رسول الله قال فاقرائني
 قل اعوذ برب الفلق و
 قل اعوذ برب الناس (الحديث)
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۱۴۴)

Ḥadrat 'Uqba bin 'Āmir رضي الله عنه narrates: "Once we were travelling through rough country. I was leading the animal on foot while the Almighty Allāh's Prophet ﷺ was riding it. All of a sudden the Holy Prophet ﷺ asked: 'O 'Uqba! 'Why do you not also ride?'

"I deemed the Almighty Allāh's Apostle ﷺ far too exalted for someone like me to be seated beside him (ﷺ). Nevertheless, the Almighty Allāh's Prophet ﷺ repeated his question: 'O 'Uqba! (Little 'Uqba)! Why do you not ride?'

"This time I worried that if I did not mount, I might become guilty of disobeying him.

"So, the Almighty Allāh's Prophet ﷺ dismounted and I rode instead for some time. Then the Almighty Allāh's Prophet ﷺ mounted once more and said to me: 'Shall I not teach you two *Suras* that are among the best that people have recited?'

"I replied: 'Certainly! O Prophet of Allāh the Almighty ﷺ!'

"Then the Almighty Allāh's Prophet ﷺ taught me to recite *Sūras Al-Falaq* and *An-Nās*"

-(*Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V4, P144*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُهِنِّي الْإِيمَانُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْتَ بِعَدُوِّكَ وَسَلِّمْ أَنْ
 وَعَدَّوْكَ حُلُوتِ وَجْهِ نَفْسِكَ وَيَتَحَرَّيْكَ وَمَا دَعَا عَلَيْكَ اسْتَشْفَى اللَّهُ إِلَهُ الْأَكْرَهِيَّةِ وَأَنْتَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدُنَا الْأَجْوَدُ

عمرائے سردار سب سے سخی درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

Sayyidunā AL- AJWADU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Generous صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے تو آپ سخی تر ہو جاتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو ملا کرتے اور آپ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھتے۔ پس جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے تو آپ تیز تر سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔

عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرئيل وكان جبرئيل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يرض عليه النبي ﷺ القرآن فإذا لقيه جبرئيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة - (صحيح البخاري المجلد 1 ص 255)

Ḥaḍrat Ibn 'Abbās رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا reports: "The Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the most generous of all people. He was generous to the utmost during the holy

month of *Ramaḍān* when the Archangel Gabriel عَلَيْهِ السَّلَامُ made regular visits. The Archangel Gabriel عَلَيْهِ السَّلَامُ visited him every night throughout the whole of the month of *Ramaḍān*. The Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ would recite passages of the Holy Qur'an to him. When the Archangel Gabriel عَلَيْهِ السَّلَامُ would meet him, the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ would become even more generous in distributing charity than the rushing wind."

-(*Saḥīḥ Al-Bukhāri V1, P255*)

حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضورِ قدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سے جب مانگا جاتا تو آپ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کبھی
 'نہ' کا لفظ زبان مبارک پر نہ لاتے۔

عن جابر بن عبد الله قال
 ما سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 شيئاً قط فقال لا -
 (رواه البخاري ما يرويه ابن كثير ج ١ ص ٣٢)

Ḥaḍrat Jābir bin 'Abdullāh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narrates: " When asked for something, the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ had never ever responded with 'no'."

-(*Al-Bukhāri / Tāriḥ Ibn Kathīr V6, P42*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِغَيْرِ مُسْلِمٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ يَتَّبِعُ مَسْجِدَهُ
 وَعَمَّا دَخَلْتُ وَجْهِي نَسَلْتُكَ وَبَشَّرْتُكَ وَمَا دَخَلَ الْبَيْتَ اسْتَفْرَأَهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُنْتَهَى الْأَرْبَابِ

سَيِّدِنَا أَجْوَدُ الْبَشَرِ

ہمارے سردار تمام جہان سے سخی دروڈ و سلام بھیجے اللہ آپ پر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *Sayyidunā Ajwad-un-Nās*
 (Our Leader the Most Magnanimous
 of All People (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں
 تمہیں بتا دوں بڑا سخی کون ہے۔
 سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے اور آدم
 کی اولاد میں سب زیادہ سخی میں ہوں۔

عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ
 إِلَّا أَخْبَرَكَ عَنِ الْجَوْدِ
 اللَّهُ الْجَوْدُ وَإِنَّا أَجْوَدُ
 بَنِي آدَمَ -
 (شرح المواب اللدنية للزرقاني ج ۳ - ۲۷۴)

Hadrat Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ reports that the Holy Prophet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ said: "Shall I tell you who is the most generous? The most generous of all is Allāh the Almighty. And the most generous amongst the progeny of the Prophet Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ is myself".

-(Sharh Al-Mawāhib Al-Laduniya by Al-Zarqāni V3, P120)

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضور آدم صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سب لوگوں سے زیادہ مال کے دینے
 میں سخی تھے اور تمام اوقات سے زیادہ
 رمضان المبارک کے مہینے میں آپ
 کی سخاوت ہوتی تھی اور حضرت جبریل
 عَلَيْهِ السَّلَام ہر سال رمضان المبارک کے
 مہینے میں اس کے اختتام تک آپ
 سے ملنے چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ
 ان کو قرآن کریم سناتے اور حسب وقت
 حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام حضور نبی کریم
 ﷺ سے ملاقات کرتے
 تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو
 جاتے تھے۔

اجود الناس بالخير وكان
 اجود ما يكون في شهر
 رمضان ان جبريل عليه السلام
 كان يلقاه في كل
 سنة في رمضان حتى
 ينسلخ فيعرض عليه رسول الله
 ﷺ القرآن فاذا
 لقيه جبريل كان
 رسول الله ﷺ اجود
 بالخير من الريح المرسلة

(الصحيح لمسلم
 المجلد الثانی - ص ۲۵۳)

Ḥaḍrat Ibn 'Abbās رَضِيَ اللهُ عَنْهُ reports: "The Almighty Allāh's Messenger ﷺ was the most generous of all people with regard to charity. He was generous to the utmost during the holy month of *Ramaḍān*. The Archangel Gabriel عَلَيْهِ السَّلَام would visit him every year throughout the holy month of *Ramaḍān*. He ﷺ would recite passages from the *Holy Qur'ān* to him (the Archangel). Whenever the Archangel Gabriel عَلَيْهِ السَّلَام met him, the Almighty Allāh's Messenger ﷺ would become even more generous in distributing charity than the rushing wind."

-(*Saḥīḥ Muslim V2, P253*)

حضرت نخاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے
 ہیں کہ جو آدمی ہے کہ غیر مستحق پر بھی
 مہربان ہو اور جو نہ مانگے اس کو بھی

قال النخاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اجود
 الذي يتفضل على من لا
 يستحق و يعطى من لا يسأل

دے اور جب دے تو کثرت سے
 دے اور فقر و فاقہ سے نہ ڈرے۔

ويعطي الكثير ولا يخاف
 الفقر - (سبل الہدی ج ۱ - ص ۱۹۵)

Ḥadrat Al-Naḥḥās رضی اللہ عنہ reports: "Al-ḥawad is an Arabic word which means: 'He who is kind even to the one who is not deserving. One who gives away to those who do not ask. One who gives away in abundance and is not afraid of poverty and destitution.'"

-(Subul Al-Hudā V6, P519)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لیے تین پرندوں کا تحفہ لیا تو
 آپ نے ایک پرندہ اپنی نوکرانی کو
 کھانے کو دیا۔ دوسرے دن وہ آپ
 کے پاس وہ پرندہ لے کر حاضر ہوئی تو
 اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسے فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہیں
 کیا تھا کہ گل کے لیے کوئی چیز مت
 رکھنا۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ہر روز تازہ
 رزق دے گا۔

عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ
 قال اهدیت لرسول اللہ
 ثلاث طائر فاطعم
 خادمه طائراً فلما كان
 من الغداتہ به ، فقال لها
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألم انہك
 أن ترفعی شیئاً لند ، فان اللہ
 عزوجل ، یأتی برزق
 کل غد -

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ - ص ۵۴)

Ḥadrat Anas bin Mālīk رضی اللہ عنہ narrates: "I presented to the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم three birds. He gave one of them to his maid servant (to eat). Next day she brought the same bird to the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He said to her: 'Didn't I tell you not to save it for tomorrow? Indeed Allāh the Almighty brings fresh food every day.'"

-(Tāriḥ Ibn Kathīr V6, P54)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْتُمْ بِعَدْوِيٍّ مُسْلِمٍ أَنْ
 وَمَا خَلَقَكَ وَجْهِي فَتُفَكِّدُ وَيُتَمَرِّشُكَ وَيَمَادُ كَلِمَاتِكَ اسْتَفْهَمْتُ أَنَّ اللَّهَ الرَّحِيمَ الْكَرِيمَ الْغَفُورَ الرَّحِيمَ

سَيِّدِنَا الْأَجِيرُ

ہمارے سردار پناہ دینے والے درود و سلام بھیجئے اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-AJĪRU صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Refuge Giver صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابو مرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جو حضرت
 عقیل بن ابوطالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے
 آزاد شدہ غلام ہیں، سوائے روایت ہے
 کہ حضرت ام ہانی بنت ابوطالب
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نے اسے بیان کیا کہ فتح مکہ
 کے سال میری طرف قبیلہ بنو مخزوم
 کے دو آدمی بھاگ کر آگئے اور میں نے
 ان دونوں کو پناہ دے دی۔ انکی بیان
 ہے کہ میرے بھائی حضرت علی
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ گھر میں داخل ہوئے اور انہوں
 نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو قتل
 کر دوں گا۔ جب میں (ام ہانی) نے

عن ابی مرثہ مولى
 عقیل حدثہ ان
 ام ہانی بنت ابی طالب
 حدثتہ انه لما کان
 عام الفتح فتر الیہا رجلان
 من بنی مخزوم
 فاجارتهما قالت فدخل
 علی علی فقال
 اقلهما فلما سمعتہ
 اتیت رسول اللہ ﷺ
 وهو باعلا مکة
 فلما رأی رجب وقال

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ يَا رَبِّ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

سُنَا تو میں حضورِ اقدس ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور آپؐ محکمہ کے اوپر والی جانب قیام فرماتے جب آپؐ نے مجھے دیکھا تو مر حبا فرمایا اور فرمایا تو کس لیے آئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لے اللہ کے نبی (ﷺ) میں نے اپنے سرال کے دو آدمیوں کو پناہ دی ہے جن کو حضرت علیؑ کو پناہ ماننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پر حضورِ اقدس ﷺ نے فرمایا لے ام ہانی! جس کو تو نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی، پھر حضورِ اقدس ﷺ نے ٹھکر غسل فرمایا اور حضرت فاطمہؑ سے غسل فرمایا اور پوچھا کیا، پھر آپؐ نے ایک کپڑے میں لپٹ کر چاشت کی اٹھ رکعت نماز ادا کی۔

ما جاء بك؟ قلت يا
 نبي الله كنت امنت
 رحلين من احماء
 فاراد علي قتلهما فقال
 رسول الله ﷺ
 قد اجرنا من
 اجرت يا ام هانف
 ثم قام رسول الله
 ﷺ الى غسله
 فسترت عليه
 فاطمة ثم اخذ
 ثوبا فالتحف به ثم
 صلى ثمان ركعات
 سبحة الضحى -
 (تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ٣٠)

Hadrat Abu Murra رضي الله عنه who was the freed slave of 'Uqail bin Abu Tālib narrates that Umm Hāni bint Abu Tālib رضي الله عنها told him that in the year of the conquest of Makkah two people from the Banu Makhzūm fled to her seeking refuge, which she gave them. She said: "Then 'Ali رضي الله عنه (my brother) entered and said: 'I am going to kill them.'

"When I heard this, I went to the Almighty Allāh's Prophet صلى الله عليه وسلم. At the time he was staying somewhere

in upper Makkah. When the Almighty Allāh's Prophet ﷺ saw me, he welcomed me and asked: 'What has brought you here?'

"I replied: 'O Prophet of Allāh the Almighty ﷺ ! I have given shelter to those two men from the family of my in-laws, but (my brother) 'Ali رضي الله عنه wants to kill them.'

"The Almighty Allāh's Prophet ﷺ said: 'O Umm Hāni رضي الله عنها, we have given refuge to those to whom you have given refuge (i.e. we approve of your action).'

"Then he got up to take a bath while Fāṭima رضي الله عنها his beloved daughter, screened him off for privacy. Then the Almighty Allāh's Prophet ﷺ wrapped himself in a sheet and offered eight Rak'āt of the *Ḍohā* Prayer (*Chasht*; Sunshine Prayer)."

-(*Tārīkh Ibn Kathīr* V4, P300)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ لِلَّهِ لَوْحَةٌ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عِدَّةً حَقًّا وَسَلِّمْ
وَمَعَهُ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ مِمَّنْ خَلَقَ اللَّهُ الْبَشَرَ الْكَافِرَةَ الْأَكْرَبَةَ الْفَعْرَةَ وَأَمْرًا بِالْإِيمَانِ

سَيِّدُكَ أَجْلك

ہمارے سردار سرداری میں واحد دو ڈوسلا بھیجے اللہ آپ

Sayyidunā UHĀDU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader, the Unique صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اسی طرح یہ نام توراہ کی پانچویں
کتاب میں وارد ہوا ہے اور ”ح“
اور ”و“ کے درمیان الف نہیں ہے
صرف ح کو بڑھا کر پڑھتے ہیں اور
ان کے نزدیک اس کی تفسیر واحد
ہے اور اس کا معنی کسی طریقوں سے
صحیح ہے۔ ایک یہ کہ آپ اکیلے
ہیں اس معنی میں کہ آپ پیغمبروں
کے آخزمیں آئے ہیں اور آپ اُنکے
ختم کرنے والے ہیں، دوسرے یہ کہ
آپ سرداری میں کیا ہیں اور تیسرے
یہ کہ آپ اپنی شریعت میں جو تمام

کذا ورد في السفر الخامس
من التوراة وليس بين الحاء
والدال الف انما يفتحون
الحاء و تفسيره عندهم
واحد- ومعناه فيه صحيح
من وجوه منها: انه واحد
بمعنى آخر الانبياء وخاتمهم،
ومنها: انه واحد في
السيادة على من سواه، و
منها انه واحد في شريته
اكمل الشرائع، ومنها:
انه واحد في خصائص

شہادتوں میں کامل تر ہے، منفرد ہیں
 اور چوتھے آپ ان خصوصیتوں میں جو
 دین کے معاملہ میں احکام ہوں یا اونچے
 امور ہوں سب میں ایک مخصوص ہیں
 جیسے شفاعت عامہ اور حوض کوثر
 اور مقام محمود۔

خاص بها من احكام دينه
 و امور رفيعة غير دينه
 كالشفاعة العامة والحوض
 المورود و المقام المحمود۔
 (سبل الھدی ج ۱۔ ص ۵۲)

This name occurs in Book V of the Torah. In the Torah the letter *Alif* before the *Dāl* is missing since the phonetics of the letter *Hā* covers for the long vowel missing. It is thus read elongated. The word thus constructed in their interpretation means 'one' (*Wāhid*). This meaning, (the one and only, i.e. unique), is correct in many respects, such as the following:

1. He ﷺ is the Seal of Prophets and the last of all Prophets.
2. He is unique in his leadership.
3. He is unique because he is blessed by Allāh the Almighty with the most complete of all religious laws, the *Shari'a* of Islam.
4. He is unique because Allāh the Almighty has granted him the highest qualities with regard to the instructions of his Religion (*Dīn*) as well as other weighty matters not directly connected with religion, such as intercession for everyone, possession of the cistern of *Kauthar* (in Paradise) and the loftiest status called *Maqām-al-Mahmūd*.

-(*Subul Al-Hudā V1, P520*)

شیخ محمد اللہ علیہ السلام سے ہیں :-
 احاد عربی میں ہمزہ کے ضمہ کے
 ساتھ اسم عدم معدولہ ہے جس کے معنی
 ایک ایک کے ہیں اور یہ بات بعید
 نہیں ہے کہ آپ کا یہ اسم گرامی جو

قال الشيخ رحمه الله تعالى :
 احاد في العربية بضم الهزرة :
 اسم عدد معدول عن واحد
 واحد ولا يبعد ان يكون اسم
 ﷺ في التوراة هو هذا

عربی میں معدولہ استعمال ہوا ہے موجود
نہ ہوا اور واحد واحد مکرر سے معدولہ ہونے
کی وجہ یہ ہے کہ آپ متعدد امور میں
واحد (ایکے) ہیں۔ واحد سے اُحاد
معدولہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مختصاً
سے دلالت کرے جیسا کہ عدل کا
فائدہ ہے کہ لفظ مکرر نہ آئے۔ یہ
اسم گرامی آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ
کے اسماء میں رکھا ہے۔

الاسم العربي المعدول ووجه
العدل فيه عن واحد واحد
المكرر؛ انه لله ﷺ واحد
في امور متعددة، فعدل عنها
إلى اُحاد ليدل على ذلك
باختصار كما هو فائدة العدل
ان لا يوتى باللفظ مكرراً
فيكون هذا الإسم مما
سماه الله تعالى به من
اسماءه -

(سبل الهدى ج ۱ ص ۲۱/۵۲)

Al-Shaikh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ says: "The Arabic word *Uḥād* beginning with a *Hamza* with the short vowel *damma* (u) on it is in altered form equivalent to the meaning 'one, one'. It is not unlikely that the name of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ in the Torah might have appeared in the form which is equivalent to its altered form in Arabic. The reason for equating it with the repeated form *Wāhid Wāhid* (one, one) is that he صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ is unique in various respects.

From *Wāhid* the equivalent form *Uḥād* is used in order to indicate its meaning in concise form. It is always better to use a synonym that is concise since it avoids unnecessary repetition. The name *Uḥād* is among those that Allāh the Almighty has chosen for His Beloved Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

-(Subul Al-Hudā V1, P520/521)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ لَكُمْ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ أَكْبَرُ وَسَلُّوا بَارِكُوا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعَقْرَبِهِ وَعَدُوِّهِمْ عَلَى سَائِرِ
النَّبِيِّينَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ
مَنْ يَشَاءُ لِيُخَلِّقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي أَخَذْتُ بِالْعَدْلِ وَأَنَا مِنَ الْغَائِبِينَ

سَيِّدُنَا أَحَبُّ النَّاسِ

ہمارے سردار تمام لوگوں سے پیارے درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

Sayyidunā AHABB-UN-NĀS صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader
the Most Beloved of All صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔

عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۴۹) (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۹)

It is narrated on the authority of Ḥaḍrat Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ that the Holy Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ said: "None of you will have faith till he loves me more than his mother, his father, his children and all mankind." -(Saḥīḥ Al-Bukhāri V1, P7; Saḥīḥ Muslim V1, P49)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

عن شیبۃ بن
 عثمان بن اطلحتہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 قال ما كان احد ابغض
 الى من رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و كيف
 لا يكون كذلك وقد
 قتل ما ثمانية كل
 منهم يحمل اللواء فلما
 فتح الله تعالى مكة
 يشت هما كنت اتمناه
 من قتله و قلت في نفسي
 قد دخلت العرب في
 دينه فتى ادرك ثأرى
 منه فلما اجتمعت هوازن
 بحنين قصدتهم لأحد
 منه غرة فاقتله فلما
 انهزم الناس عنه و بقى
 مع من ثبت معه جئت
 من ورائه فرفعت السيف
 حتى كدت احطم
 غشى فؤادي و رفع لي
 شواط من نار فلم اطق

حضرت شیبہ بن عثمان بن اطلحہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ میرے
 نزدیک حضور اقدس صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بڑھ کر
 مبعوض کوئی انسان نہ تھا اور کیسے نہ
 ہوتا کہ ہمارے گھرانے کے آٹھ آدمی آپ
 نے (جنگ بدر میں) قتل کیے تھے
 جن میں سے ہر ایک آدمی جھنڈا اٹھا
 ہوئے تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے
 مکہ فتح کروایا تو میں آپ کو شہید کرنے
 کی امید سے ناامید ہو گیا اور میں نے
 اپنے جی میں کہا کہ تمام عرب تو آپ
 کے دین میں داخل ہو گیا ہے میں آپ
 سے کب بدلہ لوں گا۔ پھر جب حنین میں
 قبیلہ ہوازن جمع ہو گیا تو میں نے اسکی
 طرف تصد کیا تاکہ میں آپ کو دھوکہ سے
 شہید کر دوں۔ پھر جب لوگ آپ کے
 پاس سے بھاگ گئے اور آپ چنپند
 ساتھیوں کے ساتھ وہاں جمے رہے تو
 میں آپ کے پیچھے سے آیا، پھر میں نے
 تلوار اٹھائی جسے کمر قریب تھا کہ میں آپ
 کو گھیر لوں۔ میرے دل غرشی طاری ہو
 گئی اور میرے لیے آگ کے شعلے بلند

ذَلِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ
 فَالْقَتْتُ إِلَى وَقَالَ ادْنِ
 يَا شَيْبَ فَقَاتِلْ وَوَضَعَ
 يَدَهُ فِي صَدْرِي فَصَارَ
 أَحِبَّ النَّاسِ إِلَى وَ
 تَقَدَّمْتُ فَقَاتَلْتُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَلَوْ عَرَضَ لِي
 ابْنِي لَقَتَلْتُهُ فِي نَصْرَتِهِ
 فَلَمَّا انْقَضَى الْقِتَالُ دَخَلْتُ
 عَلَيْهِ فَقَالَ لِي الَّذِي
 أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرٍ مِمَّا
 أَرَدْتَهُ لِنَفْسِكَ وَوَحْدَتِي
 بِجَمِيعٍ مَا زُوِدْتَهُ فِي نَفْسِي
 فَقُلْتُ مَا أَطَّلَعُ عَلَى هَذَا
 أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ فَاسَلْتُ -

(اعلام النبوة ص ۱۰۵/۱۰۴)

ہوتے، پھر میں اس پر قادر نہ ہو سکا
 میں نے سمجھ لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی
 طرف تائید حاصل ہے۔ آپ میری
 طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے شیبہ!
 ذرا نزدیک تو ہو اور جہاد کرو اور آپ
 نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو وقت
 آپ تمام لوگوں سے مجھے محبوب ہو گئے
 اور میں آگے بڑھا، میں نے آپ کے
 سامنے جہاد کیا، اس وقت اگر میرا
 باپ بھی سامنے آتا تو میں آپ کی
 تائید کے لیے اسے بھی قتل کر دیتا۔
 پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو میں آپ
 کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے
 مجھے فرمایا کہ وہ چیز جس کا ارادہ اللہ
 تعالیٰ نے تیرے لیے فرمایا وہ بہتر ہے
 اس چیز سے جو تو نے اپنے نفس کیلئے
 ارادہ کیا اور پھر مجھے آپ نے وہ تمام
 سیکھیں جو میں نے اپنے دل میں نبائی
 تھیں، سب بیان فرمادیں۔ میں نے
 کہا کہ ان سازشوں کا علم اللہ تعالیٰ
 کے سوا اور کسی کو نہیں ہو سکتا
 تو میں (علانیہ) مسلمان ہو گیا۔

Ḥadrat Shaiba bin 'Uthmān bin Abu Ṭalḥa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ said: "I used to hate the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ more than any body else. The reason for this hatred was that eight men of my family had been killed by (the companions of) the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ in the Battle of Badr, and every one of them was carrying the banner.

"When Makkah was conquered by the grace of Allāh the Almighty, I gave up all hope of killing him as I had been longing to do so. I thought to myself that now the whole of Arabia had entered the fold of Islam, when would I be able to take revenge on him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?

"Then came the Battle of Ḥunain and the Tribe of *Hawāzin* came out against the believers. Then I set off towards the battlefield in order to deceive and kill the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Even when most fighters had fled, the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ stood firm as a rock in the battlefield with his few devoted companions. I came from behind the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, raised my sword and was about to attack him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Just at that moment I fainted, and flames of fire drew up around me. I could not do anything. I immediately realised that the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ had the protection of Allāh the Almighty. The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ came up to me and said: 'O Shaiba, draw near and fight the holy war.' Then the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ put his hand on my chest. From then on the Almighty Allāh's Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ became the most beloved of all to me. I rode forward, faced the enemy and fought in the name of Allāh the Almighty in the presence of the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, and even if my father had confronted me at that time I would have definitely killed him in support of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. At the end of the battle I presented myself to the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ who told me that Allāh the Almighty had intended better for me than that which I had decided for myself. Then (to my amazement) the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ revealed all of the false schemes that I had planned in my heart. I said to myself that nobody could ever have known about these schemes except Allāh the Almighty.

This was how I accepted Islām."
 -(A'lam Al-Nubuwwah P104/105)

حضرت عمر فاروق رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلوات الله عليه
 صحابہ کرام رضي الله عنهم کی ایک مجلس
 میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ
 کے پاس بنی سلیم سے ایک یہاں آیا
 جس نے گوہ کا شکار کیا تھا اور اس کو
 اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا تاکہ اسے
 اپنے گھر جا کر بھون کھائے، جب اس نے
 جماعت کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟
 انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کو نبی کہا
 جاتا ہے۔ وہ صغیر چیرتا ہوا آیا اور بولا
 مجھے لات و غزی کی قسم، آسمان کی چھت
 کے نیچے کوئی میرے نزدیک مبعوض تجھ
 سے بڑھ کر نہیں اور نہ ہی تجھ سے بڑھ کر
 میں کسی سے ناراض ہوں اور اگر مجھے
 اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ میری قوم میرا نام
 جلد باز رکھے گی تو میں تجھ کو جلدی
 قتل کر دیتا۔ اور میں آپ کے قتل پر
 کالے اور گولے اور سفید غیرہ لوگوں
 کو خوش کرتا۔ حضرت عمر رضي الله عنه نے
 حضور اقدس صلوات الله عليه سے اسے قتل

عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ان رسول الله
صلوات الله عليه وسلم كان في
 مجلس من اصحابه اذ جاء
 اعرابي من بنى سلیم
 قد صاد ضبا وجعله
 في كفه ليذهب به
 الى رحله فيشويه و
 يأكله فلما رأى الجماعة
 قال ما هذا قالوا هذا
 الذي يذكر انه نبى
 فجاء فسق الناس
 فقال واللات و الغزى
 ما شملت السماء على ذى
 لهجة انفض الى منك
 ولا امقت منك ولولا ان
 يمينى قومى عجول لجلت
 عليك فقتلتك فسرت
 بقتلك الاسود والاحمر
 والابيض وغيرهم
 فقال عمر بن الخطاب

یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 دعنی فاقوم فاقتلمہ
 قال یا عمر اما علمت
 ان الحلیم کاد
 ان یکون نبیا؟ شو
 اقبل علی الاعرابی
 وقال ما حملک علی
 ان قلت ما قلت و قلت
 غیر الحق ولم تکرمنی
 فی مجلسی؟ فقال
 و تکلمنی ایضاً؟
 استخفا فابرسول اللہ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ واللات
 والعزی لا امنت بک
 او یؤمن بک هذا الضب
 و اخرج الضب من
 کمہ و طرحہ بین
 یدی رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 فقال رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 یا ضب فاجابہ الضب
 بلسان عربی مبین
 یسمعه القوم جمیعاً لیک

کرمینے کی اجازت مانگی۔ آپ نے
 فرمایا عمر! کیا تو نہیں جانتا کہ بڑبڑا
 قریب ہے کہ نبی ہوتا۔ پھر آپ
 دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ آیا
 تجھ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا او
 تُو نے حق کے علاوہ ایسی باتیں کیوں
 کہیں اور تُو نے میری مجلس میں میری
 عزت کیوں نہیں کی۔ اُس نے کہا کہ
 ابھی تُو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے
 مقصد اس کا آپ کی گستاخی تھا۔
 مجھے لات و عزی کی قسم میں تجھ پر
 ایمان نہ لاؤں گا شے کہ یہ گوہ ایمان
 لائے اور اس گوہ کو اپنی آستین سے
 نکال کر حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے
 آگے پھینک دیا تو آپ نے فرمایا کہ
 گوہ! تو اس پر وہ گوہ ضیح عربی زبان
 میں بولی جس کو تمام لوگوں نے سنا
 حاضر ہوں اور تیرا ہوں اے محشر
 کے میدان کی زینت! آپ نے
 فرمایا اے گوہ تُو کس کی بندگی کرتی ہے
 گوہ بولی جس کا عرش آسمان پر ہے
 جس کی بادشاہی زمین میں ہے

و سعديك يا زين من
 و افي القيامة قال من
 تسبد يا ضب ؟ قال
 الذي في السماء عرشه
 و في الارض سلطانه و في
 البحر سبيله و في الجنة
 رحمته و في النار عقابه
 قال فمن انا يا ضب ؟
 فقال رسول رب العالمين
 و خاتم النبيين و قد
 افلح من صدقتك
 و قد خاب من كذبك
 فقال الاعرابي و الله لا
 اتبع اثرأ بعد عين و الله
 لقد جئتك و ما هلي ظم
 الارض الغض الى منك
 و انك اليوم احب الي
 من والدي و من عيني
 و مني و اني لأحبك
 بداحلي و خارجي و
 سري و علانيتي و اشهد
 ان لا اله الا الله و انك

چکے راستے سمندر میں ہیں، جس
 کی رحمت پشتوں میں ہے، جس کا
 غداں دوزخ میں ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ میں کون ہوں؟ گوہ
 بولی رب العالمین کے پسر اور
 نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں،
 جس نے آپ کو مانا کامیاب ہو گیا
 اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ
 مارا گیا۔ دیہاتی بولا اللہ کی قسم میں ایک
 قدم آگے نہ چلوں گا۔ اللہ کی قسم میں
 آپ کے پاس حاضر ہوا تو زمین کی
 پیٹھ پر آپ سے بڑھ کر مغفوس تر میرے
 نزدیک کوئی نہ تھا اور آج آپ
 میرے نزدیک میرے ماں باپ
 اور میری آنکھوں اور میرے وجود
 سے محبوب تر ہیں اور اللہ کی قسم میں
 آپ سے اندر اور باہر سے محبت
 کرتا ہوں اور ظاہر و باطن میں محبت
 کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں
 کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
 آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ
 نے فرمایا سب تعریف اس ذات

کے لیے ہے جس نے تجھے میرے
 ذریعے ہدایت عطا کر کی۔ یہ دین بلند
 ہوگا، معسُوب نہ ہوگا اور دینِ غیر
 نماز کے قبول نہیں ہے اور نمازِ غیر
 قرآن کے مقبول نہیں ہے۔

رسول الله ﷺ فقال
 رسول الله ﷺ الحمد لله
 الذي هداك بي ان هذا الدين
 يعلو ولا يعلى ولا يقبل
 الا بصلاة ولا تقبل
 الصلاة الا بقران -

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۱۰۵/۱۰۶)

Hadrat 'Umar رضي الله عنه narrates: "A bedouin from the Bani Sālim came suddenly to the Almighty Allāh's Holy Prophet صلى الله عليه وسلم as he was sitting among some of his companions. The bedouin had caught a big lizard and had hidden it in his sleeve. He intended to roast it and then eat it at home. When he saw a group of people gathered around the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم, he inquired: "who is that man?" He was told that he was the Almighty Allāh's Holy Prophet Muḥammad صلى الله عليه وسلم. At this he cut through the crowd, coming closer to the Almighty Allāh's Holy Prophet صلى الله عليه وسلم, and shouted: 'I swear by the idols *Al-Lāt* and *Al-'Uzzā* that to me you are the most detestable and loathsome person under the sky. I would have killed you, were it not for my tribe, who would have called me reckless for taking such action. I would have sooner killed you صلى الله عليه وسلم thereby pleasing the black, the white, the brown and the rest.'

"At this Hadrat 'Umar رضي الله عنه exclaimed: 'O the Apostle of Allāh the Almighty صلى الله عليه وسلم! Allow me to get up and kill him!'

"But the Almighty Allāh's Apostle صلى الله عليه وسلم said: 'Umar, do you not know that a mild tempered person is almost a Prophet?'

"Then the Almighty Allāh's Apostle صلى الله عليه وسلم turned to that bedouin and asked him: 'What has caused you to say what you have said? Indeed you have spoken a lie and

have shown disrespect to me in public.' The man became even more rude and said: 'And you ﷺ still preach to me!'

"He swore by the idols, *Al-Lāt* and *Al-Uzzā*: 'I do not believe in you ﷺ and nor does this lizard! With that he pulled the lizard out of his sleeve and threw it before the Almighty Allāh's Holy Prophet ﷺ, who spoke to the lizard. Then the lizard answered in the most eloquent Arabic that was heard by all the people. The lizard said: 'Here I am at your service, O the Grace of the Day of Judgement, the Prophet of Allāh the Almighty ﷺ.' The Holy Prophet ﷺ asked the lizard: 'Who do you worship?' He replied: 'The One Whose Throne is in the Heavens, Whose Kingdom is on the Earth, Whose Channels are in the Oceans. He is the One Whose mercy overwhelms in Paradise and his punishment in the Fire of Hell.'

"Then the Holy Prophet ﷺ asked the lizard: 'Who am I?' The lizard replied: 'You are the Messenger of the Lord of the Universe and the Seal of Prophets. He who believes in you becomes successful, and he who denies you will fail.'

"At this the bedouin said: 'I swear by Allāh the Almighty I will not persist (in my intention to kill you) from now on. I swear by Allāh the Almighty that when I came here, you appeared to me the most hated person on the face of this Earth, but now you are dearer to me than my parents, my eyes and the whole of myself. I swear by Allāh the Almighty that I love you both from my inner and outer being, and privately and publicly. I witness that there is no god but Allāh the Almighty, and that you are the Messenger of Allāh the Almighty.'

"Then the Almighty Allāh's Apostle ﷺ said: 'All praise be to Allāh the Almighty, Who showed you the right path through me. This Faith (of Islām) will prevail and will never be subdued. It will not be valid without Prayer (*Ṣalāh*), and Prayer (*Ṣalāh*) will not be valid without the *Holy Qur'ān*.' "

-(*Tārīkh Ibn Kathīr V6, P149/150*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَكْفُرُ بِالْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانُ عَلَىٰ خُلُقِهِ لَئِيمٌ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ وَإِن مِّن مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ وَجَدَهُ عِندَ اللَّهِ وَعَدَّ بِنِهَايَةِ الْعِلْمِ ۗ وَإِن مِّن مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ وَجَدَهُ عِندَ اللَّهِ وَعَدَّ بِنِهَايَةِ الْعِلْمِ ۗ وَإِن مِّن مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ وَجَدَهُ عِندَ اللَّهِ وَعَدَّ بِنِهَايَةِ الْعِلْمِ ۗ

سَيِّدُكَ الْأَحَدُ

ہمارے سردار تمام جہان میں منفرد و دروڈ سلامیجبالہ آپ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 Sayyidunā AL-AḤADU
 (Our Leader the Unique صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت حلیمی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے کہا ہے کہ الاحد وہ ہے جس کے مشابہ کوئی دوسرا نہ ہو اور وہی اس کی مثل کوئی دوسرا ہو۔

قال الحلیمی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وهو الذي لا شبيه له ولا نظير۔
 (کتاب الاسماء والصفات ص ۲۳)

Hadrat Halimi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ said: "Al-Ahad is he who has no likeness to any one and who is matchless."
 -(Kitāb Al-Asmā' Was-Ṣifāt P23)

بعض اسماء ذات الہی کے ساتھ مختص ہیں اور بعض کے ساتھ مخلوق بھی شامل ہے مثلاً ہم اللہ تعالیٰ کو قدیم مانتے ہیں لیکن قرآن کریم کی سورۃ یسین میں چاند کی آخری تاریخ کو "کالمرجون العاقیم" یعنی پرانی

من الاسماء هی مختصہ باللہ تعالیٰ و منها عامۃ بین اللہ و خلقہ مثالہ نحن عندنا ان اللہ قدیم ولكن قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ

فِي الْمَرَحَتِي عَادَا كَالْعُرْجُونِ
 الْقَدِيمِ وَاخْبِرْ عَنْ أَحْسَنَةِ
 يُوسُفَ أَنَّهُ قَالُوا لَا يُبْهِمُ
 تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيمِ
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ"
 وَهُوَ صِفَةُ اللَّهِ فِي بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَالْمَقْصُودُ
 أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
 الرَّوْفُ وَالْإِحَادُ بِمَعْنَى يُوجَدُ
 فِي ذَاتِهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهُ
 أَنَّ الْإِحَادَ فِي خَلْقِهِ
 لَا عَدِيلَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ وَلَا
 مِثِيلَ لَهُ بَلْ دَرَيْتِمَ لَا يُوجَدُ
 فِي الْكُونِ وَالْمَكَانِ -

(مؤلف)

کڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
 حضرت یوسف عَلَیْهِ السَّلَام کے بھائی
 نے حضرت یعقوب عَلَیْهِ السَّلَام کو کہا
 تھا "تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيمِ"
 اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حق میں
 "بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ" فرمایا
 ہے اور رحیم کی صفت اللہ تعالیٰ
 کے لیے بسوا اللہ الرحمن الرحیم
 میں پائی گئی ہے۔ مقصد یہ
 ہے کہ آپ ان معنوں میں "الاحد"
 یا "رؤف رحیم" نہیں ہیں جن میں
 ذات باری تعالیٰ متصف ہے معنی
 یہ ہوگا کہ آپ مخلوق خدا میں بی نظیر
 اور عدیم المثال ہیں۔ آپ کا نانا
 میں وہ دریتیم ہیں کہ آپ کا
 عدیل نہیں۔

Certain attributes are associated only with Allāh the Almighty, while others are general and can be associated with both Allāh the Almighty and His creation. For example, Allāh the Almighty is described as *Qadīm* (The Infinitely Pre-Existent), and in *Sūrah Yāsīn* the Moon is described thus 'till she returns like the old (*qadīm*) lower part of a date stalk.' Similarly Ḥadrat Yūsuf's (عَلَيْهِ السَّلَام) brothers said to their father Ḥadrat Ya'qūb (عَلَيْهِ السَّلَام) : "By Allāh the Almighty you are truly in

(the state) of your old (*qadīm*) aberration."

Allāh the Almighty has described his Beloved Prophet Muḥammad ﷺ thus: "Kind and merciful to the believers." And the same attribute (of mercy) is associated with Allāh the Almighty as in *Bismillā-hir Rahmā-nir Rahīm* (In the Name of Allāh the Beneficent, the Merciful). So the Almighty Allāh's Apostle ﷺ is not unique or merciful in the sense that Allāh the Almighty is. He is unique and unparalleled (in mercy) in relation to Allāh the Almighty's creation. Rather, he is a unique pearl, the like of which cannot be found in the whole Universe.

-(The Author)

الاحدوه ہے جو کمالات کی
صفت سے محسوس میں جدا ہو یا
حق کے قریب ہو اور وہ صفت
مشبہہ کا صیغہ ہے۔

الاحد المنفرد
بصفات الكمال عن
اخلاق او بالقرب من
الحق وهو من الصفات
المشبهة -

(سبل الهدى ج ۱ - ص ۵۲۱)

Al-Aḥad means the one who is unique in the whole of Allāh the Almighty's creation, an account of his distinctive and perfect qualities, and for his closeness to Allāh (*Al-Ḥaqq*). This noun (*Al-Aḥad*) is also an identical adjective.

-(*Subul Al-Hudā V1, P521*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْذَ الْإِنْسَانَ أَذُنًا
 وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشْرَتِهِ بَعْدَهُ وَعَلَى مَنَاسِكِهِ
 وَمَا وَعَدْتَهُمْ وَعَلَى مَنْ تَلَّكَ وَبَدَّكَ وَمِنَادَكَ وَمَنَادَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

سَيِّدُنَا الْحَسَنُ

ہمارے سردار نہایت حسین دُردو و سلام بھیجے اللہ آپ پر

سَيِّدُنَا الْحَسَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Beautiful
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

وہ لفظ حسن سے تم تفضیل کا
 ہے جس کے معنی میں جن کے اعضا
 پرے تناسب پر ہوں اور نرادر اس
 صفات کمال کا مجسمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا "اور کون اچھا ہے با شیا
 اس سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف
 بلا تا ہے" عبد الرزاق صحیح
 معمر بن الدین سے، وہ حضرت حسین
 رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں
 نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو فرمایا یہ اللہ
 کے دوست، اللہ کے پسندیدہ ہیں؟

وہو افضل من الحسن
 تناسب الاعضاء علی ما ینبغی
 والمراد المستجمع صفات
 الکمال قال الله تعالیٰ "ومن
 احسن قولا من دعا الی الله"
 روی عبد الرزاق عن معمر
 عن الحسن البصری انه
 تلا هذه الاية فقال هذا
 حبيب الله صفوة الله هذا
 احب اهل الارض الی
 الله احب الله فی دعوتہ

وَدَعَا النَّاسَ إِلَى مَا
 أَجَابَ اللَّهُ فِيهِ -
 (شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ۳ ص ۳۲)

سائے جہاں سے اللہ کو زیادہ پیارے
 ہیں جنہوں نے اللہ کی پکار کو لبیک کہا
 اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دی

The word *Aḥsan* is the superlative form of *Ḥasan*, which means 'the one whose physical features are of the correct proportions and who possesses the perfect qualities' i.e. the one who is perfect in personality.

Allāh the Almighty says: "Who is better (*Aḥsan*) in speech than the one who calls people towards Allāh the Almighty?"

-(*Al-Qur'an, Hā Mim Al-Sajda 41:33*)

Ḥadrat 'Abdul Razzāq رَضَّاقُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ quotes from Ḥadrat Mu'ammar مَعْمَرُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ who relates from Ḥasan Al-Basri بَسْرِيُّ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ, who recited the above Verse and interpreted it thus: 'This refers to the Beloved of Allāh (Muḥammad ﷺ), the chosen one of Allāh, and the dearest one to Allāh among the inhabitants of earth. It is he ﷺ who responded to the call (*Da'wa*) of Allāh and in turn invited others towards what he himself had responded to, that is, the call of Allāh the Almighty.

-(*Sharḥ Al-Mawāhib Al-Laduniya by Al-Zarqāni V3, P120*)

عن جابر بن سمرة رَضَّو اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ
 قال رایت رسول اللہ ﷺ
 فی لیلۃ اضحیان و علیہ
 حلۃ حمراء فجعلت انظر
 الیہ و الی القمر قال فلهو
 کان احسن فی عینی
 من القمر -
 (سنن الدارمی الجزء الاول ص ۳۳ شمارہ ۵۸)

حضرت جابر بن سمرة رَضَّو اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ
 کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس
 ﷺ کو سرخ جوڑا پہننے
 ہوئے چاندنی رات میں دیکھا تو
 میں آپ کو اور چاند کو دیکھنے لگا۔
 میری نظر میں آپ چاند سے زیادہ
 حسین تھے۔

Ḥadrat Jābir bin Sumura رَضَّو اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ narrates: "Once I saw

the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wearing a red garment during a moonlit night. I looked at the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ and the Moon simultaneously. I found him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ to be certainly more beautiful than the Moon."

-(Sunan Al-Dārimī V1, P33, No:58)

حضرت حسان بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 نے فرمایا "آپ سے خوبصورت
 کبھی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سا
 جمیل کسی عورت نے نہیں بنا آپ
 تو ہر عیب مبرا پیدا ہوئے ہیں۔ گویا
 کہ جس طرح آپ نے چاہا ویسے ہی
 پیدا ہوئے۔"

قال حسان بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 واحسن منك لم ترقط عيني
 واجمل منك لم تلد النساء
 خلقت مبرأ من كل عيب
 كانك خلقت كما تشاء
 (المتنبر ص ۳۴۹)

Ḥadrat Hassān رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has composed in praise of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ the following verse: "My eyes have never seen anybody more beautiful than you. No woman has ever given birth to a child more beautiful than you. You were created free from all blemish, as if you were created as you wished to be."

-(Al-Mubtakir P349)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْعَذَابُ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَدُونِهِمْ كُلِّهِمْ
 وَمَدِينِهِمْ كُلِّهِمْ وَمَدِينَتِكَ وَمَدِينَةِ عَالَمِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَحْسَنُ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ خوبصورت و درویشا پیچا اللہ آپ

Sayyidunā AḤSAN-UN-NĀS صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Handsome of All People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ
 تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت
 اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور
 سب سے زیادہ بہادر تھے۔

عن انس رضي الله عنه قال
 كان رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احسن الناس
 واجود الناس و اشجع الناس
 رواه عبد بن حميد - شرح المواهب اللدنية
 ج ۲ ص ۱۲۰ - الصعيح لمسلم ج ۲ ص ۱۵۲

Ḥaḍrat Anas رضي الله عنه has reported: "The Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the most handsome, the most generous and the bravest of all."

-(Narrated by 'Abd bin Ḥamīd, Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladūniya V3 P120; Saḥīḥ Muslim V2, P252)

عن ابى هريرة رضي الله عنه
 حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں
 کہ حضور اقدس ﷺ رنگت
 میں تمام لوگوں سے حسین تھے جب
 آپ کسی کی جانب رخ کرتے تو
 پوری طرح اور پشت پھیرتے تو پوری
 طرح میں نے آپ کی مثل نہیں دیکھا
 اور نہ ہی آپ کی مثل کہیں سنا۔

قال كان رسول الله
 ﷺ احسن الناس
 لونا يقبل معاو يدبر
 معالمه و لو
 اسمع بمثله -

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ - ص ۱۹)

Ḥaḍrat Abu Huraira رضي الله عنه states: "The Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the most beautiful of all people in complexion. When he would pay attention to anybody, he would pay full attention; if he would turn back, he would turn back fully. I have never seen or heard of anyone like him."

-(Tārikh Ibn Kathīr V6, P19)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَى خَيْرٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِي وَأَصْحَابِي وَعَنْتُمْ بِمَدُونِي وَعَلَىٰ مَنْ تَلَمَّذَ مِنِّي
 وَمَنْ دَعَا لِي بِحَسَنَةٍ أَوْ بِعَظِيمَةٍ أَوْ بِأَمْرٍ مِّنْ أَمْرِي فَآتِهِ مِنِّي بِحَسَنَةٍ أَوْ بِعَظِيمَةٍ أَوْ بِأَمْرٍ مِّنْ أَمْرِي

سَيِّدُكَ أَحْسَنُ النَّاسِ كُنْفًا

ہمارے سردار تمام لوگوں سے حسین گردن والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā
 AḤSAN UN-NĀSI 'UNUQAN صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader of
 the Most Elegant Neck صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے کہ چاندی کی صراحی۔

عن علی بن ابی طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ عُنُقَهُ أُرْيُوقُ فِضَّةٍ (رواه ابن مساکر - تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۷)

Hadrat 'Ali bin Abi Ṭālib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ is quoted to have said: "The neck of the Almighty Allāh's Apostle صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ was like a silver vase (delicate and curved)."

-(Narrated by Ibn 'Asākir, Tarīkh Ibn Kathīr V6, P17)

حضرت ابن ابی ہالہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ آپ کی گردن مبارک ایسی تھی گویا ہاتھی دانت پر کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ صفائی میں چاندی کی

عن ابن ابی ہالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عُنُقُهُ جِيدَ دُمِيَّةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ (تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۱۷)

طرح تھی۔

Ḥadrat Ibn Abi Hāla رضي الله عنه is reported to have said:
 "The neck of the Messenger of Allāh the Almighty
 ﷺ was so beautiful that it resembled that of an
 ivory model, with the lustre of silver."

-(Tarīkh Ibn Kathīr V6, P31)

دمیہ، وال کی پیش کے ساتھ	الذميمة بضم الدال
وہ مورتی جو ہاتھی دانت کو تراش	المهملة وهي الصورة المنحوتة
کر بنائی گئی ہو۔	من العاج (حاشیہ ۲ المبتکرۃ)

The word *Dunya*, spelt with short vowel *u* on the letter *dāl*, stands for a figurine that has been carved out of ivory.

-(Note 2, Al-Mubtakir, P402)

سنگ مرمر کو منقش کر کے	الصورة المنقشة
مورتی بنانا۔	من الرخام - (قاموس لجام ۳۲۹)

It also denotes an image sculpted in marble.

-(Al-Qāmūs V4, P329)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيْ آيَاتِهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشِيرَتِهِ بِمَدَدِ مَنْ مَلَكَ أَلَمٌ
 وَمَدَدِ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَيَسِّرْ لِي مَعَالَجَ الْبَلَاءِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدُ الْاَحْشَمِ

ہمارے سردار باومتاریستی دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-AHSHAMU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Most Modest, Dignified صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ام مَعْبُدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا نے جو
 وصف حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا بیان
 کیا ہے، کہا کہ آپ اگر چپ رہتے تو
 آپ پر وقار ہوتے اور اگر آپ کچھ
 فرماتے تو آپ پر رونق آجاتی۔ دُور
 سے خوبصورت اور بارعب معلوم
 ہوتے اور اگر نزدیک ہوتے تو
 حسین و جمیل معلوم ہوتے۔

قالت ام مَعْبُدٍ فِي
 صِفَتِهِ اِنْ صَمِتَ فَعَلِيهِ
 الْوَقَارُ وَ اِنْ تَكَلَّمَ سَمَاءُ
 وَ عِلَاهُ الْبَهَاءُ اَجْمَلُ
 النَّاسِ وَ اِبْهَاءُ مِنْ
 بَعِيدٍ وَ اَحْسَنُهُ وَ اَجْمَلُهُ
 عَنْ قَرِيبٍ - (الْحَدِيثُ)
 (الْمُسْتَدْرَكُ لِلْعَاكِمِ ج ۳ - ص ۹)

Umm Ma'bad صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا describes the personality of the
 Apostle of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ thus: "When he
 was silent, he looked most dignified. When he spoke,
 his face became radiant. Indeed, he appeared most
 handsome and commanding from a distance and most

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

attractive and beautiful up close."
 -(Al-Mustadrak by Al-Hākim V3, P9)

حضرت علیؓ جب
 حضورِ اقدس ﷺ کا وصف
 بیان کرتے تو فرماتے جو اچانک
 آپ کو دیکھتا وہ غمخیزہ ہو جاتا اور
 جو آپ کو پہچان کر گھل مل جاتا وہ آپ
 سے محبت کرتا۔ آپ کی صفیت بیان
 کرنے والا کہتا ہے کہ نہ میں نے
 آپ جیسا پہلے دیکھا اور نہ ہی
 آپ جیسا بعد میں دیکھا۔

عن علیؓ
 كان إذا وصف
 النبي ﷺ قال
 من راه بديهته هابه و
 من خالطه معرفته
 احبه يقول فاعتم له
 ارقبله ولا بعده مثله
 ﷺ
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰۵)

When Hadrat 'Aliؓ used to describe the personality of the Holy Prophet ﷺ, he would say: "Anyone who looked at him was over-awed from the first glance. Anyone who socialised with him and got to know him, became overwhelmed with love for him. Whosoever eulogises is obliged to say: 'I have never seen anyone like him neither before nor after seeing him.'" - (Jāmi' Al-Tirmidhī V2, P204/205)

حضرت ابوہریرہؓ سے
 روایت ہے کہ جب ثمامہ بن اثالؓ
 مسلمان ہوا تو اس نے کہا اے محمد
 ﷺ! اللہ کی قسم، رُوئے زمین
 پر تیسے چمے سے مینغوض چہرہ میرے
 نزدیک کئی نہ تھا۔ اب (اللہ کی قسم)
 تمام جہاں کے چہروں سے آپ کا

عن ابی ہریرۃؓ
 قال ثمامۃ بن اثال لما اسلم
 یا محمد و اللہ ما کان
 علی الارض البغض
 الی من وجھک فقد اصبح
 وجھک احب الوجوه کلھا
 الی واللہ ما کان من

دين انفض الی من دینک
 فاصبح دینک احب الی
 کله الی و الله ما
 کان من بلدٍ انفض الی
 من بلدک فاصبح بلدک
 احب البلاد کلها الی
 و ان خیلک اخذتی و انا
 ارید العرة فماذا ترى فبشره
 رسول الله ﷺ وامره ان
 یعتمر فلما قدم مكة قال له
 قائل اصبوت فقال لا وکنی
 اسلمت مع رسول الله ﷺ
 ولا والله لا تا تکم من
 الیمامة حبة حنطة حتی یاذن
 فیها رسول الله ﷺ
 (الصصح مسلم ج ۲ - ص ۹۳)

چہرہ مبارک مجھے زیادہ محبوب ہے۔
 اللہ کی قسم، تمام مذاہب سے برا دین میرے
 نزدیک آپ کا دین تھا لیکن اب
 آپ کا دین میرے نزدیک تمام
 مذاہبوں سے پیارا ہے اور اللہ کی قسم
 میرے نزدیک آپ کا شہر تمام
 شہروں سے برا تھا لیکن اب وہ
 تمام شہروں سے میرے نزدیک
 پیارا شہر ہے۔ آپ کے سواروں
 نے مجھے پکڑ لیا۔ میں عمرہ کی نیت سے
 جا رہا تھا تو اب کیا کروں حضور اقدس
 ﷺ نے انہیں بشارت دی اور
 عمرہ کرنے کا حکم دیا، جب مکہ مکرمہ پہنچے
 تو لوگوں نے ان سے کہا تو بنوین ہو گیا
 ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں تو
 جناب رسول اللہ ﷺ کی نیت میں
 مشرف باسلام ہو گیا ہوں اللہ کی قسم،
 یمامہ کی مہیبت سے ایک دانہ گیسوں کا تم
 تک نہیں پہنچے گا تا وقتیکہ جناب
 رسول اللہ ﷺ اجازت نہ دیں

It has been narrated on the authority of Hadrat Abu
 Huraira رضی اللہ عنہ that when Thumāma bin Uthāl
 accepted the Religion of Islam, he said: "O Muhammad

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! By Allāh the Almighty, there was no face on earth more hateful to me than yours, but now your face has become to me the dearest of all faces.

"By Allāh the Almighty, there was no religion more hateful to me than yours, but now your religion has become to me the dearest of all religions.

"By Allāh the Almighty, there was no city more hateful to me than yours, but now your city has become to me the dearest of all cities. Your horsemen captured me when I had intended to go for the 'Umra (lesser pilgrimage). What shall I do now?"

The Messenger of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ gave him good tidings and told him to carry out the 'Umra as intended. When he reached Makkah, somebody said to him: "Have you changed your religion?"

He replied: "No! Rather, I was blessed with Islam by the Messenger of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. By Allāh the Almighty, you will not get a single grain of wheat from Yamāma until it has been permitted by the Messenger of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

-(Saḥīḥ Muslim V2, P94)

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 سے روایت ہے کہ ہم حیاتِ بابرکات
 نبی کریم ﷺ میں اپنی عورتوں
 سے گفتگو کرنے سے خوف کھاتے
 تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے
 میں قرآن نازل ہو جائے جب حضور اقدس
 ﷺ کا وصال ہوا تو ہم نے
 آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی تھی

عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 قال كانت الكلام و
 الانبساط الى نساءنا
 على عهد رسول الله
 ﷺ مخافة ان
 ينزل فينا القران
 فلما مات رسول الله
 ﷺ تكلمنا - (سنن ابن ماجه ص 118)

Ḥaḍrat 'Abdullāh bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا states: "During the life-time of the Messenger of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, we used to be very careful in selecting proper

words while talking to our wives, and having an extended talk with them, lest a Qur'anic revelation regarding us descended. But, when he passed away, we started talking freely with them."


-(Sunan Ibn Māja P118)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہمارے
 چہرے ایک ہی طرف متوجہ تھے
 جب آپ نے حلتِ ثانی تو ہم حیران
 ہو کر ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کیا کریں۔

عن ابی بن کعب
رضی اللہ عنہ قال كنا مع
 رسول الله ﷺ
 وانا وجهنا واحد فلما
 قبض نظرنا هكذا وهكذا.
 (سنن ابن ماجہ ص ۱۱۸)

Hadrat Ubai bin Ka'ab رضی اللہ عنہ is quoted to have said:
 "During the life time of the Almighty Allāh's Apostle
 ﷺ our faces were focussed in one direction i.e. at
 him. But after he passed away we were much confused
 (not knowing what to do)."

-(Sunan Ibn Māja P118)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِخَيْرٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنَا وَسَلِّمْ عَلَيْنَا وَمَلَائِكَتِنَا وَمَنْ فِي آيَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 وَمَعْدِنَا وَعَلَيْكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا وَمَلَائِكَتِنَا وَمَنْ فِي آيَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

سَيِّدِنَا أَحْمَدُ الْبَلْبَانِ

ہمارے سردار سب سے زیادہ شیریں زبان دُرود و سلام بھیجئے اللہ پر

Sayyidunā AHLAN-NĀS صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Most Eloquent of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

<p>کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بولنے میں تمام لوگوں سے فصیح تھے اور کلام کے لحاظ سے آپ ان سے شیریں بیان تھے۔</p>	<p>کان صلی الله علیه وسلم افصح الناس منطقاً واحلاهم كلاماً۔ (احیاء العلوم لامام غزالی جلد ۲ ص ۳۶۳)</p>
--	---

Our beloved Holy Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was most eloquent and most sweet in his talk.
 -(Iḥyā Al-'Ulūm by Imām Ghazālī V2, P363)

<p>حضرت بریدہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمام لوگوں سے فصیح اللسان اور شیریں زبان تھے۔</p>	<p>عن بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افصح الناس منطقاً واحلاهم كلاماً۔</p>
---	--

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(المغنی ج ۲ - ص ۳۶۳)

Ḥaḍrat Buraida رضي الله عنه is quoted to have said: "The Messenger of Allāh the Almighty صلی اللہ علیہ وسلم was most eloquent of tongue and most sweet in his talk."

-(Al-Mughni V2, P363)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی کلام جدا جدا الفاظ تھے، ہر کوئی
سمجھ لیتا اور آپ تیس زبان نہ
تھے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
كان كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فضلا يفهمه كل احد
لم يكن يسرد سرداً
(رواه احمد - تاريخ ابن كثير ج ۱ - ص ۱۰۰)

Ḥaḍrat 'Ā'isha رضي الله عنها is reported to have said: "The Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was so articulate and well-paused in his talk that each word he spoke was absolutely clear. His speech was neither piercing nor incoherent."

-(Narrated by Ahmad: Tārīkh Ibn Kathīr V6, P41)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ
 وَمَنْ يَعْصِمْ يَكْفُرْ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالَّذِي لَا يَرْجَى
 عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سَيِّدِنَا أَجْلَمُ النَّاسِ

ہمارے مژدار جہان سے زیادہ حلیم و بردبار دُود و مسیحیج الاریبی

Sayyidunā AHLAM-UN-NĀS ﷺ
 (Our Leader the Most Gentle ﷺ)

حضرت عبد الرحمن بن ابزی
 سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ تمام
 لوگوں سے زیادہ بردبار تھے۔ یہ
 حدیث مرسل ہے اور اسکو ابوشیخ
 نے کتاب الاخلاق میں ذکر کیا ہے

عن عبد الرحمن بن
 ابزی رَوَى أَنَّكَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ
 الْحَدِيثُ وَهُوَ مَرْسَلٌ -
 رَوَاهُ أَبُو شَيْخٍ فِي كِتَابِ اخْلَاقٍ -
 الْمَعْنَى عَنْ حَمَلِ الْأَسْفَارِ ج ٢ ص ٢٥٣

Ḥaḍrat 'Abd-ur-Raḥmān bin Abazi is reported to have said: "The Almighty Allāh's Prophet ﷺ was the most gentle of people."

This Ḥaḍīth is Mursal i.e. it has a chain of authorities that go back no further than the second generation after the Holy Prophet ﷺ .

-(Narrated by Abu Al-Sheikh in his Kitāb Al-Akhlāq: Al-Mughni 'an Ḥaml Al-Asfār V2, P353)

وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا نَاكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے جو ایک یہودی عالم
 زید بن شعثہ کے اسلام لانے کا ذکر کرتے
 ہیں جس میں زید نے حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اے عمر
رضی اللہ عنہ! میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چہرہ اقدس میں نبوت کی تمام
 علامتوں کو پایا ہے مگر دو علامتیں
 جن کا آتا پتا مجھے نہیں ملا کہ ان کی
 بروباری ان کے جہل پر غالب آ
 جائے گی اور جتنا کوئی جہالت کا
 زیادہ مظاہرہ کرے گا وہ آہستہ ہی
 بڑبڑاہوں گے، بیشک مجھے ان دونوں
 کی بھی خبر مل گئی ہے۔

عن عبد الله بن سلام
رضی اللہ عنہ فی قصة اسلام
 زید بن شعثہ من احبار
 اليهود وقول زید لعمر
 بن الخطاب؛ یا عمر
 کل علامات النبوة
 قد عرفتها فی وجه رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت
 الیه الا اثنتین لم
 اخبرها منه یسبق حلمه
 جهله ولا تزيد شدة
 الجهل علیه الا حلما
 فقد اختبرتهما - (الحدیث)
 (رواه ابو حاتم بن حبان/المعنی عن حمل الاسفا
 ج ۲ ص ۳۵۳)

In a report of the conversion of the Jewish Rabbi Zayd bin Sha'tha to Islām, Ḥaḍrat 'Abdullāh bin Salām رضی اللہ عنہ quotes him as saying to Ḥaḍrat 'Umar: "O 'Umar, all the signs of Prophethood are visible to me on the Almighty Allāh's Apostle's (صلی اللہ علیہ وسلم) face except for two things, of which I had no knowledge: His patience exceeds his anger and the more someone shows ignorance the more he is forgiving. Now through my personal experience I have fully acquainted myself with these two traits of Prophethood as well."

-(Narrated by Abu-Hātim bin Ḥabān/Al-Mughni 'an Ḥamil Al-Asfar V2, P353)

روایت کی گئی ہے کہ جبگ احد
 میں جب حضور اقدس ﷺ
 کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور
 حضور ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی
 ہو گیا تو اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم
 کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے
 عرض کیا کہ حضور (ﷺ) ! ان
 کے لیے بددعا فرمائیں، تو اس پر
 آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے
 کیلئے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں دعیٰ اور
 رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ!
 میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے
 نہیں ہیں

روى أن النبي
 ﷺ لما كسرت
 رباعيته وشج وجهه
 يوم أحد شق ذلك
 على أصحابه شديداً وقالوا
 لودعوت عليهم فقال
 انى لم أبت لعانا ولكنى
 بمت دعايا ورحمة اللهم
 اهد قومي فانهم لا يعلمون.
 (نسيم الرياض ج ٢ - ص ١٣)

It is reported that when during the Battle of Uḥud the Almighty Allāh's Apostle ﷺ broke his two teeth and his face was wounded, his companions, who were extremely upset, requested him to cast a curse on the enemies of Islam. But he replied: "I have not been sent to curse. Rather, Allāh the Almighty has sent me as a blessing and to invite people to Islām. O Allāh the Almighty! guide my people for they do not know."

-(Nasīm Al-Riyāḍ V2, P14)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لَخَشْيَةَ إِبْرَاهِيمَ إِنْ رَأَىٰ نَارَ اللَّهِ كَأَنْ لَمْ يَحْمُسْ بِهَا فَجَعَلَ اللَّهُ سَبِيحَةً مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِهِ وَصَفِيْرَهُمْ بِمَدُونِ عَلَىٰ مَلَكُومِ أَنْ
 وَرَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ وَعُجُنَّاتٍ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ وَرَبِّدَادِكُمْ

سَيِّدِنَا
 أَهْلَ كَلَامِنَا

ہمارے سردار جہان سے زیادہ شیریں کلام دُرودِ سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā
 AHLĀ HUM KALĀMAN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 of Most Pleasant Speech صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت بارہ بن عازب رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ میں نے حضور
 اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے زیادہ
 کسی کی اچھی آواز نہیں سنی۔

عن البراء بن عازب
رضي الله عنه قال ما سمعت احدا
 احسن صوتا منه -
 (المغني عن حمل الاسفار للعرافي
 حاشية احياء العلوم ج ٢ ص ٣٦٤)

Hadrat Bara' bin 'Azib رضي الله عنه is quoted to have said: "I have never heard anyone speak more beautifully than him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

-(Al-Mughni 'an Hamil Al-Asfār by Al-'Irāqī, on the margin of Ihyā' Al-'Ulūm V2, P364)

حضرت عمر رضي الله عنه نے کہا
 کہ میں نے حضرت عائشہ رضي الله عنها

عن عمرة رضي الله عنها قالت
 قلت لعائشة كيف كان

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

سے پوچھا کہ حضورِ اقدس ﷺ
گھر میں کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
کہ حضور تمام لوگوں سے نرم طبیعت
تھے اور تمام لوگوں سے بزرگ تھے
ہنس مکھ تھے، خنداں دہان تھے۔

رسول الله ﷺ
في اهله؟ قالت كان
ألين الناس و أكرم
الناس و كان ضحاكا
بساماً -

(رواه ابن عساکر - تاریخ ابن کثیر
ج ۶ - ص ۳۳)

Ḥaḍrat 'Amra رَضِيَ اللهُ عَنْهَا is quoted to have said: "I asked Ḥaḍrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, 'How did the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ treat his household?' Ḥaḍrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا replied: "He was most gentle, extremely generous, always cheerful, and with a smiling face."

-(Narrated by Ibn 'Asākar, Tārīkh Ibn Kthīr V6, P44)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُخَيِّبْ الْأَيُّمَ اللَّهُمَّ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعِزِّمْ وَعُدَّتْ
 رِجْلَيْهِمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ وَوَدَّ عَمَلَهُمْ

سَيِّدِنَا أَحْمَدُ

ہمارے سردار سب سے زیادہ اللہ کی صفی ترین بیان کر موالے دعوؤں سے لایا ہے اللہ کے

Sayyidunā AHMAD صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Greatest Praiser
 of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ، اسی قولہ :
 ” وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
 أَحْمَدُ ط (سورة الصف 6)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف :
 ” اور خوشخبری سننے والے رسول کی جو
 میرے بعد آئے گا، اس رسول کا
 نام ہے احمد“

Reference to the Holy Qur‘ān:
 And remember,
 Jesus عَلَيْهِ السَّلَامُ, the son of Mary, said:
 "O Children of Israel!
 I am the Apostle of Allāh the Almighty
 Sent to you, confirming
 The Law (which came)
 Before me, and giving
 Glad tidings of an Apostle to come after me,
 Whose name shall be AHMAD."
 -(Aş-Şaff 61:6)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

اس (ام احمد) کا ذکر حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی آیا
 ہے۔ جب اس کو اس کے رب
 نے فرمایا یہ امت احمد ﷺ
 کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے عرض کیا کہ اے اللہ! ٹھیک
 حضرت احمد ﷺ کی امت
 میں سے کرے تو احمد ﷺ
 کا ذکر محمد ﷺ سے پہلے
 آیا ہے کیونکہ آپ کا اپنے رب کی
 حمد بیان کرنا پہلے تھا کہ لوگ آپ کی
 تعریف کریں۔ جب آپ کا وجود
 مبارک دنیا میں ظاہر ہوا اور آپ
 مبعوث کیے گئے تو بالفعل آپ کا
 اسم گرامی محمد ﷺ ہو گیا۔

ذکرہ موسیٰ
 علیہ السلام حین قال له ربہ
 تلك امة احمد ﷺ
 فقال اللهم اجعلني
 من امة احمد ﷺ
 فباحمد ذکر قبل
 ان يذكر بمحمد ﷺ
 لان حمده لربه كان
 قبل حمد الناس له
 فلما وجد وبعث
 كان محمداً ﷺ
 بالفعل -

(الروض الأنفج ج ۱ ص ۱۸۳)

Prophet Moses ﷺ mentioned the name AHMAD when Allāh the Almighty told him: "This is the Umma of the Holy Prophet Ahmad ﷺ." The Prophet Moses ﷺ prayed: "O Allāh the Almighty, make me a member of Ahmad's (ﷺ) Umma." So he was Ahmad before he came to be known as Muhammad ﷺ because he ﷺ praised Allāh the Almighty before he himself was praised by people. It was when he was born and sent as a Prophet that he actually became Muhammad ﷺ.

-(Al-Rawḍ Al-Unf V1, P183)

حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ
 جب مائی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں
 تھے تو ان کو خواب میں حکم ہوا کہ جیسا
 رسول اللہ ﷺ کا نام
 احمد رکھیں۔

عن ابی جعفر محمد
 بن علی رضی اللہ عنہما قال
 امرت اُمّنا وہی حامل
 برسول اللہ ﷺ ان
 تسمیہ احمد۔
 (الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۱)

Hadrat Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali رضی اللہ عنہما is reported to have said: "Āmina رضی اللہ عنہا, the mother of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, was told in her dream during pregnancy to name the child (the Almighty Allāh's Apostle ﷺ) AHMAD."
 -(Al-Tabaqāt Al-Kubrā V1, P104)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ نے فرمایا مجھے
 وہ کچھ دیا گیا ہے جو اللہ کے پیغمبروں
 میں سے کسی کو نہیں دیا گیا ہے نہ عرض
 کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ
 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں
 رعب کے ساتھ امداد کیا گیا ہوں
 اور مجھے زمین کی کُنجیاں عنایت
 کی گئی ہیں اور میرا نام احمد رکھا گیا
 ہے اور میرے لیے زمین کو پاک
 کیا گیا ہے اور میری امت کو تمام

عن ابی بن کعب
 رضی اللہ عنہ ان النبی
 ﷺ قال اعطیت
 ما لم یعط احد من
 انبیاء اللہ قلنا یا
 رسول اللہ ﷺ
 ما هو قال نصرت
 بالرعب و اعطیت
 مفاتیح الارض و سمیت
 احمد و جعل لی
 تراب الارض طهوراً
 و جعلت امتی خیر الامم۔

(اخرجه ابن مردويه/ الدر المنثور ج ٦ ص ٢١٤) ائمہوں سے بہتر ناما کیا ہے۔

Hadrat Ubai bin Ka'b رضي الله عنه quotes the Holy Prophet ﷺ as saying: "I have been given that which no other Prophet of Allāh the Almighty has been given." We asked: "O Messenger of Allāh the Almighty ﷺ! What is it that you have been given?" The Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied:

- I have been made victorious by the awe-inspiring power I have been given (that instills fear into the hearts of my enemies).
 - I have been granted the keys of the Earth.
 - I have been named AHMAD.
 - The Earth (upon which I walk) has been made pure for me.
 - My *Umma* has been selected to be the best *Umma*.
- (Reported by Ibn Mardawiyah/Al-Durr Al-Manthūr V6, P214)

حضرت زید بن ثابت رضي الله عنه

سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی قرظہ اور بنی نضیر کے یہودی علماء حضور اقدس ﷺ کی صفات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب سرخ تارا نمودار ہوا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر بتایا کہ وہ نبی ہیں اور وہ ایسے نبی ہوں گے کہ انکے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا اور ان کی ہجرت گاہ یثرب ہوگی۔ جب جناب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو

عن زید بن ثابت

رضي الله عنه قال كان احبار يهود بنى قريظہ و النضير يذكرون صفة النبي ﷺ فلما طلع الكوكب الاحمر احبروا انه نبى و انه لا نبى بعده واسمه احمد و مهاجره الى يثرب فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة انكروا و حسدوا و كفروا

انہوں نے آپ کا انکار کیا اور
ادھر فرمایا۔


تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۶۸



Ḥaḍrat Zaid bin Thābit رضي الله عنه states: "The Jewish scholars of Banu Quraiza and Banu Naḍir used to mention the qualities of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ. When they saw a shining red star rise in the sky, they said: "He is the Apostle of Allāh the Almighty ﷺ. There will be no prophet after him. His name will be *AHMAD*. He will migrate to Yathrib (Madina *Al-Munawwara*)."

But when the Almighty Allāh's Apostle ﷺ migrated to Madina *Al-Munawwara*, the same Jewish people denied him ﷺ, became jealous of him ﷺ and turned against him ﷺ.

-(Tārikh Ibn Kathīr V2, P268)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِقَاءَ الْإِنْبِيَاءِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ عَلَىٰ مِثْلِهِ
 وَمَعَهُ خَلْقُكَ وَجِئْتَ بِسَلَامِكَ وَبِتَحْرِيكِكَ وَمَعَادُكَ عَلَىٰ إِلَهِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدُنَا أَحْمَدُ

ہمارے سردار لوگوں کی دوزخ سے دُور رکھنے والے دُورسلاہیجبالاچی

Sayyidunā UḤAYD ﷺ
 (Our Leader
 the Saviour of People from Hell ﷺ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے فرمایا میرا نام قرآن کریم میں محمد
 ہے اور انجیل میں احمد ہے اور توراہ
 میں اُحید ہے۔ میرا نام اُحید اس لیے
 رکھا گیا ہے کیونکہ میں اپنی امت کو
 دوزخ کی آگ سے دُور لے جاؤں گا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
 إنہ ﷺ قال
 اسمی فی القرآن محمد
 و فی الانجیل احمد و فی التوراة
 اُحید و انما سمیت اُحید
 لانی اُحید امتی عن نار جہنم۔
 (رواہ ابن عساکر۔ نسیم الریان ج ۲ ص ۵۰۰)

Hadrat Ibn 'Abbās رضی اللہ عنہما quotes the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying: "In the Holy Qur'ān my name has been mentioned as MUḤAMMAD. In the Holy Bible it is AḤMAD and in the Holy Torah I have been mentioned as UḤAYD, because I shall lead my Ummah away from Hell-Fire."
 -(Narrated by Ibn 'Asākar in Nasīm Al-Riyāq, V2, P408)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

یہ اسم آپ کا توراہ میں ہے، ہمزہ پر پیش اور حار کی زبر اور یا ساکن اگے وال اور بعض نے ہمزہ پزبر اور حاساکن اور یا پزبر کے ساتھ ضبط کیا ہے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ میرا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میں لوگوں کو دوزخ کی آگ سے ڈروںے جانے والا ہوں

اسمہ فی التوراة احد بضم همزة وفتح مهملة و سکون تحتیة ف دال مهملة وقیل بفتح همزة و سکون مهملة و فتح تحتیة قال سمیت احدی لاذی احد امتی عن نار جهنم۔
 (مجمع البحار ج ۱ ص ۱۶)

This name "UHAYD" appears in the Holy Torah, according to the following diacritical points (of Arabic): Hamza with the short vowel *ḍamma* (u), followed by Hā with short vowel *fatha* (a), Yā unpointed (i.e. with *sukūn*) and Dāl unpointed. Some scholars spell it with the short vowel (a) on Hamza, followed by an unpointed Hā and Ya with short vowel *fatha* (a). The Almighty Allāh's Apostle ﷺ said: "I have been named UHAYD because I am the one who will lead my Ummah (i.e. save my people) away from Hell Fire."
 -(Majma' Al-Bihār VI, P16)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِرَحْمَةِ الْوَالِدِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَقْبِهِمْ بَعْدَهُمْ عَلَى مَنَّا مِنْ أُمَّةٍ
 وَمِنْهُ وَعَلَيْكَ وَجْهِ نَسْرَتِكَ وَوَدَادِكِ الْإِسْلَامِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمَلِكُ الْغَنِيُّ

سَيِّدِنَا الْأَخِيذُ بِالْحُجْرَاتِ

ہمارے سردار کولہوں سے پیکر کو روخ سے روکنے والے دُرد و ملامت کے لاپتے

Sayyidunā
 AL-ĀKHIDHU BIL-HUJUZĀTِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader Who Holds People Back from
 Hell Fire صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے منہ پایا میری اور تمہاری مثال
 اُس شخص کی سی ہے، جس نے آگ
 جلانی۔ بڑی اور پتنگے اس میں
 گھرنے لگے اور وہ ان کو روکنے
 لگا اور میں بھی ناچار ہشتم سے
 تمہارے کولہوں کو تھامنے والا ہوں مگر
 تم میرے ہاتھ سے نکلے جاتے ہو۔

عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ
 رَجُلٍ أَوْ قَدْ نَارًا بِفِعْلِ
 الْجِنَادِ وَالْفَرَاشِ
 يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذْبَهُنَ
 عَنْهَا وَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ
 عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلَتُونَ
 مِنْ يَدِي -

(الصحيح لمسلم المجلد الثاني ص ۲۴)

Ḥaḍrat Jābir bin 'Abdullāh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has reported the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "My example and yours is that of a man who lit a fire. As grasshoppers and moths began to fall into it, he would try to drive them away. Like this man I am going to hold you back from the Fire, though you are slipping from my hands."

-(Saḥīḥ Muslim V2, P248)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ إِلَهًُا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَدَرًا مَّا كَانَتْ لَهُمْ أُلُوهًا قَدَرًا مَّا كَانَتْ لَهُمْ أُلُوهًا قَدَرًا مَّا كَانَتْ لَهُمْ أُلُوهًا قَدَرًا

سَيِّدِنَا أَخِيذُ سَادِقَاتِ

ہمارے سردار زکوٰۃ وصول کرنے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā
ĀKHIDH-UŞ-ŞADAQĀT صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Collector of Alms صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارے اس آیت کی طرف ”آپ ان لوگوں
کے مالوں میں سے صدقے لیجئے جس کے
ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیئے
اور ان کے لیے دعا کیجئے۔“

اشارہ إلى قوله
” خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ط “ (سورة التوبة آية 103)

Reference to the *Holy Qur‘ān*:

Of their goods take alms,
So that thou (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) mightest
Purify and sanctify them;
And pray on their behalf
-(*Al-Tawbah* 9:103)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ حضور اقدس صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن عبد الله بن ابي
اوفى رضي الله عنه يقول كان

کے پاس جب کوئی شخص اپنے مال
 کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو
 آپ اس کے واسطے دعائے رحمت
 فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے
 سامنے اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر
 ہوا تو آپ نے میرے واسطے یہ دعا
 فرمائی۔ اے اللہ رحمت بھیج ابو اوفیٰ
 کی آل پر۔

رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا
 اتاه الرجل بصدقة ماله
 صلى عليه فآتته بصدقة
 مالي فقال اللهم صل
 على آل ابى اوفى -

(سنن ابن ماجه ص ۱۲۸)

Ḥaḍrat 'Abdullāh bin Abi Awfā رَضِيَ اللهُ عَنْهُ is reported to have said: "When anyone brought his *Zakāt* (2.5% mandatory alms tax on wealth in Islam) to the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, he used to pray for him to be blessed. Once I took my *Zakāt* to him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; he prayed for me thus: 'O Allāh the Almighty, send lessings on Abu Awfā's (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) family.'"

-(Sunan Ibn Māja P128)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لَكَفَّةَ الْأَمَانَةِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَلَكَ
وَعَمَدَ خَلْقِكَ وَوَجْهَ نَبِيِّكَ وَوَمَادَ كَلِمَتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدُ الْآخِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے شہداء سب سے بعد میں آنے والے دُرُودِ سَلَامِ بَیِّنِ الْآخِرِ

Sayyidunā AL- ĀKHIRU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader
the Last Prophet of Allāh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اول کے مخالف تاخر سے اسم
فاعل جو تقدم کی ضد ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہما سے
معراج کے واقعہ میں روایت ہے
کہ پھر آپ کی ملاقات اللہ کی مخلوق
میں سے ایک مخلوق کے ساتھ ہوئی
انہوں نے کہا تجھ پر سلام ہو لے سب
سے پہلے، تجھ پر سلام ہو لے سب سے
بعد میں آنے والے۔ تجھ پر سلام ہو
لے حاشر جس کے قدموں پر لوگوں
کو اکٹھا کیا جائیگا، تو حضرت جبریل

ضد الاول اسم فاعل
من التأخر ضد التقدم۔
عن انس رضی اللہ عنہما
فی قصة الاسراء ثم
لقی خلقاً من خلق
الله تعالی فقالوا السلام
علیک یا اول۔ السلام
علیک یا آخر۔ السلام
علیه یا حاشر۔ فقال
له جبریل اردد السلام
یا محمد۔

وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

ﷺ نے عرض کیا کہ اے محمد
 ﷺ! اگے سلام کا جواب دیجئے۔

(رواہ البیہقی)
 (سبل الہدی ج ۱ - ۵۳۹)
 (رواہ ابن جریر - تفسیر ابن کثیر ج ۵)

Al-Ākhiru (the Last) is the opposite of *Al-Awwal* (the First). It is the active participle related to the verbal noun form derived from the same root: *Al-Ta'akhkhar* which means 'coming last'. It is the opposite of *Al-Taqaddum* which means 'coming first'.

While describing the Night Journey, the ascension to the Heavens (*Laylat al-Mi'rāj*) of the Almighty Allāh's Prophet ﷺ Ḥaḍrat Anas رضی اللہ عنہ relates: "Then the Prophet of Allāh the Almighty ﷺ came across some of Allāh the Almighty's creation, who said: 'Peace be upon you, O the First (*Al-Awwal*)- peace be upon you, O the Last (*Al-Ākhir*)- peace be upon you, O the Gatherer of People on the Day of Judgement (*Al-Hāshir*).'"

"The Archangel Gabriel عزیز السلام requested the Almighty Allāh's Prophet ﷺ very humbly: 'O Muḥammad صلی اللہ علیہ وسلم! Answer back the *Salām* (greetings) of these people.'"

-(*Subul Al-Hudā V1, P539; Tafṣīr Ibn Kathīr V3, P5*)

حضرت عبداللہ بن ابراہیم رضی اللہ عنہ
 بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ
 تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں نبیوں میں سے آخری
 نبی ہوں اور میری مسجد تمام مسجدوں
 سے آخری مسجد ہے۔

عن عبد اللہ بن ابراہیم
 قال اشہد انی سمعت ابا
 ہریرۃ یقول قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان
 اخر الانبیاء و انہ اخر
 المساجد -
 (سنن النسائی ج ۱ ص ۷۲)

Ḥaḍrat 'Abdullāh bin Ibrāhīm رضی اللہ عنہ confirms that

Hadrat Abu Huraira رضي الله عنه heard the Almighty Allāh's Prophet ﷺ as saying: "I am the last of Prophets and this Mosque of mine is the last of Mosques."

-(Sunan Al-Nasā'i VI, P72)

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے
 فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
عليه السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی
 اولاد کے متعلق خبر دی۔ پھر انہوں نے
 ایک دوسرے پر ان کی فضیلتیں دکھیں۔
 حضرت آدم عليه السلام نے نیچے ایک
 نور دکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار
 یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ یہ تمہارے نبی احمد ﷺ ہیں۔
 وہ جو دو میں سب سے پہلے ہیں اور
 درود میں سب کے بعد ہیں۔

عن ابى هريرة رضي الله عنه
 قال قال رسول الله
 ﷺ لما خلق الله
 تعالى آدم حنبره بنيه
 فجعل يرى فضائل
 بعضهم على بعض فرأى
 نوراً ساطعاً في اسفلهم
 فقال يارب من هذا ؟
 قال هذا نبيك احمد وهو
 اول وهو آخر -

(رواه سعيد بن منصور وابن المنذر
 وابن ابى حاتم والبيهقي وابن عساکر -
 سبل الهدى ج ۱ - ص ۱۱)

Hadrat Abu Huraira رضي الله عنه reports the Almighty Allāh's Prophet ﷺ as saying: "When Allāh the Almighty created Hadrat Adam عليه السلام, He gave him the glad tidings about his progeny. Hadrat Adam عليه السلام witnessed the virtues of generations one after the other. Then Hadrat Adam عليه السلام saw a bright shining light behind all of them. At this he asked: 'O my Sustainer! Who is he?' Allāh the Almighty replied: 'This is your Prophet AHMAD ﷺ. He is 'THE FIRST' (in creation) and he is 'THE LAST' (in arrival i.e., the seal of all the Prophets (peace be upon them all))."

-(Subul Al-Hudā VI, P91)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لَأَخِيَةِ الْوَالِدِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ
 وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ

سَيِّدِنَا أَخِيَّتَا

ہمارے سردار آخری نبی درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

Sayyidunā UKHRĀYĀ ﷺ
 (Our Leader
 the Final Prophet of Allāh ﷺ)

یہ حضور اقدس ﷺ کا
 اسم گرامی انجیل میں ہے جس کا معنی
 آخری نبی ہے مصطفیٰ ابن ابی شیبہ
 میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے، وہ کعب احبار
 سے روایت کرتے ہیں کہ پہلا شخص
 جو بہشت کے کنڈے کو تھامے گا،
 اور بہشت کا دروازہ اس کے لیے
 کھول دیا جائے گا وہ حضرت محمد
 ﷺ ہیں۔ پھر انہوں نے توراہ
 کی آیت پڑھی کہ وہ آخری نبی جو

ہو اسمہ فی الانجیل
 معناه آخر الانبياء
 روى ابن ابى شيبه
 عن مصعب بن سعد
 عن كعب اقل من
 ياخذ حلقة باب الجنة
 فيفتح له محمد
 ﷺ شوقراً
 آية من التوراة اخرايا
 قدما يا الاولون والآخرون.
 (شرح المواهب اللدنية للزرقاني
 ج ۳ - ص ۱۲)

پہلے اور پچھلوں کے سردار ہیں۔

This name of the Holy Prophet ﷺ is in the Holy Bible which means 'The Final Prophet' or 'The Seal of Prophets'.

Ibn Abi Shaiba رضي الله عنه relates from Muṣ'ab bin Sa'd رضي الله عنه on the authority of Ka'b رضي الله عنه: "The first person to hold the handle of the gates of Paradise and for whom the door will be opened will be the Almighty Allāh's Prophet Muḥammad ﷺ."

Then he recited the following Verse from the Holy Torah which reads: "He is the Final Prophet of Allāh the Almighty, the leader of all people before and after (him)."
-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ludūniya by Al-Zarqāni V3, P120)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِرَحْمَةِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا مَخْرُوجًا مِنْ أُمَّةٍ أَلْفِيَّةٍ وَعَنْ أُمَّةٍ وَعَنْ بَدْوٍ عَلَى مَلَكٍ
 وَمِنْ مَخْلُوقٍ وَحَسْبُ نَسَبِكَ وَمَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ الْأَكْبَرُ الْإِسْلَامُ وَالْحَقُّ الْإِلَهِيُّ

سَيِّدِنَا أَخِيْرُ مَآكٍ

ہمارے سردار درست اسلام والے درود سلام بھیجے لا الہ الا انت

Sayyidunā ĀKHIRU MĀKH ﷺ
 (Our Leader Who Brought the True
 Religion of Islām From Allāh ﷺ)

حضرت عزنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے اس کی
 نسبت حضرت شیث عَمَلِيَّةٌ کے
 صحیفوں کی طرف کی ہے اور کہا ہے کہ
 اس کا معنی درست اسلام والے ہے۔

عزاه «ع» لصفحة
 شيث عَمَلِيَّةٌ قال
 ومعناه صحيح
 الإسلام -
 (سبل الهدى ج ۱ - ص ۵۲۴)

Hadrat 'Azafi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has traced this term from the
 Prophet Sheeth's (عَمَلِيَّةٌ) Epistles and has interpreted
 it to mean: "The bearer of the true Religion of Islām."
 -(Subul Al-Hudā VI, P524)

مجھے تم سے اور مجی بہت
 سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کی
 برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب

ان لی اموراً
 كثيرةً ايضاً لأقول
 لكم ولكن لا تستطيعون

ان تحملوا الآن
و اما متی جاء ذاك
روح الحق فهو يرشدكم
الى جميع الحق لانه
لا يتكلم من
نفسه بل كل
ما يسمع يتكلم به
و يخبركم بامور اتية
ذالك يمجدي لانه
ياخذ مما لى و يخبركم
كل ما لا لب
هولى . لهذا قلت
انه ياخذ مما لى
و يخبركم بعد
قليل لا تبصرونى شو
بعد قليل ايضاً ترونى
لانى ذاهب الى الاب .

انجيل يوحنا باب ١٦ آية ١٢ تا ١٦
ص ١٤٨

وہ ، یعنی سچائی کی رُوح اُسے گا
تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا
اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تمکے
کا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور
تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال
ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے
حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔
جو کچھ باپ کا ہے وہ سب
میرا ہے، اس لیے میں نے کہا
کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا
ہے اور تمہیں خبریں دے گا
تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے
اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو
گے کیونکہ اب میں باپ کی طرف
جانے والا ہوں۔

The Holy Bible relates: "I have yet to tell you many things, but you cannot bear them now. When the Spirit of Truth صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ comes, he will guide you to all the True for he will not speak on his own authority, but whatever message of Truth he hears he will speak and he will declare to you things that are to come. He will

glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has, is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. A little while, and you will see me no more; again a little while and you will see me. I am returning to the Father."

-(St John's Gospel C16, V12-17, P178)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِغَيْرِ مُسْلِمٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَدِّتْ بِعَدُوِّهِمْ عَلَى سَلَامٍ إِنَّكَ
 رَحِيمٌ وَجَلِيلٌ وَجَبَّ جَسَدُكَ وَبَدَأَ بِكَ الْإِنْسَانُ لِيُكْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا الْأَخْشَى

ہمارے سردار اللہ سے زیادہ ڈرنے والے دوڑو! بھیجے اللہ پرچے

Sayyidunā AL-AKHSHĀ LILLAH صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader Most God Fearing صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں کچھ دریافت کرنے کے لیے آیا اور آپ دروازہ کے پیچھے سے سُن رہی تھیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے نماز کا وقت آجاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں؟ حضور اقدس صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا مجھے بھی جنابت کی حالت میں نماز کا وقت آجاتا ہے اور میں روزہ رکھتا

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ان رجلاً جاء الى النبي صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ تدركني الصلوة وانا جنب فاصوم فقال رسول الله صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وانا تدركني الصلوة وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا يا

ہوں۔ اُس نے عرض کیا،
 یا رسول اللہ (ﷺ) ! آپ
 ہم جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
 کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف
 کر دیں۔ آپ نے فرمایا بخدا مجھے
 اُمید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ
 سے ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ
 ان چیزوں کا جاننے والا ہوں جن سے
 بچنا ضروری ہے۔

رسول اللہ (ﷺ)
 قد غفر الله لك
 ما تقدم من ذنبك وما
 تاخر فقال والله
 اني لارجو ان اكون
 اخشاكو لله و
 اعلمكم بما اتقى.
 الصحيح لمسلم المجلد الاول
 ص ۳۵۴

Hadrat 'A'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا has reported that a person came to the Apostle of Allāh the Almighty ﷺ asking for a *fatwā* (religious decree). This she رَضِيَ اللهُ عَنْهَا overheard from behind the curtain. He beseeched: "O the Messenger of Allāh the Almighty ﷺ! The time for prayer has caught up with me and I am in a state of major ritual impurity (*Junub*). Should I observe the fast in that state?"

"The Messenger of Allāh the Almighty ﷺ said: 'Prayer (time) has also caught up with me (at times) while I am *Junub*, and I continue to observe the fast.'

"He said: 'O Messenger of Allāh the Almighty ﷺ! But you are not like us. Allāh the Almighty has pardoned all your omissions, the previous as well as the later ones.'

"The Holy Prophet ﷺ said: 'By Allāh the Almighty, indeed I expect to be the most God-fearing of you, and to know better than you of those things which I must guard against.'

-(*Sahih Muslim VI, P354*)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ تین آدمیوں کی ایک

عن انس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قال جاء ثلاثة رهط

إلى بيوت ازواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يسألون عن عبادة
 النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما
 أخبروا كانوا
 يقولون فقالوا أين
 نحن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قد غفرله ما تقدم
 من ذنبه وما تأخر
 فقال أحدهم انا
 انا فاني أصلي الليل
 أبدا وقال آخر
 انا اصوم الدهر
 ولا افطر وقال
 آخر انا اعتزل
 النساء فلا اتزوج
 أبدا فبأبى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اليهم فقال انتم الذين
 قلتم كذا وكذا
 اما والله اني لآخشاكم
 لله واتقاكم له
 لكني اصوم وافطرو
 أصلي وارقدو اتزوج

جماعت حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی
 ازواج مطہرات کے ہاں آئی اور ان
 سے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی
 عبادت کے متعلق دریافت کیا۔
 جب ان کو معلوم ہوا تو گویا انہوں نے
 اس بندگی کو ٹھوڑا خیال کیا اور کہنے
 لگے کہ کہاں ہم اور کہاں حضور اقدس
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ آپ کے تو اللہ تعالیٰ
 نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے
 ہیں۔ ان میں سے ایک بولا میں تو
 ہمیشہ ساری ساری رات نماز نفل،
 پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں
 ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ
 نہ چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں
 تو عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔
 کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں
 حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بھی
 تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا
 تم ہی وہ لوگ جو نبیوں نے ایسی ہی باتیں
 کی ہیں۔ خبردار اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ
 اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار
 ہوں۔ پھر میں روزہ بھی رکھتا ہوں

اور چھوڑتا بھی ہوں اور رات کو نوافل
 بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں
 اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا
 ہوں اکان کھول کر سن لیں جو میری
 سنت سے بے رغبتی کرے گا، وہ
 میری امت سے نہیں ہے۔

النساء فمن رغب
 عن سنتي فليس
 مني -
 (صحيح البخاري، كتاب النكاح
 ج ۲ - ص ۴۰۷)

Narrated Ḥadrat Anas bin Mālik رضي الله عنه: "Three men arrived together at the houses of the wives of the Holy Prophet of Allāh the Almighty ﷺ, asking how the Holy Prophet of Allāh ﷺ worshipped Allāh the Almighty. When they were informed about it they considered their own worship insufficient and said: 'Who are we compared to the Holy Prophet of Allāh the Almighty ﷺ? Indeed his past and future sins have been forgiven.' (By virtue of his ﷺ intercessory status, Allāh the Almighty may forgive the past and future sins of his *Ummah - Tafsir*) One among them said: 'As for me, from now on I will always pray throughout the night (*Nawāfil*).' The other said: 'I will fast for life without breaking it.' The third said: 'I will always keep away from women and will never marry.'

"In the meantime the Almighty Allāh's Messenger ﷺ came and said: 'Are you the same people who have said such and such? By Allāh the Almighty, I am more submissive to Allāh the Almighty and fear Him more than you; yet I fast some times and break the fast at others; I pray throughout the night (*Nawāfil* prayers) some nights but during others I sleep; and I marry women. Listen carefully, whoever turns against my tradition (*Sunna*) in religion is not from my *Ummah* (Muslim Community).'"

-(*Saḥīḥ Al-Bukhārī V2, P757*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِلْعِلْمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَجْسَدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَوَعْتَرِهِمْ بَعْدَ وَعَلَى مَنْ تَلَوْا مِنْهُمْ
 وَمَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلَكُمْ بِهِ فَكْرًا وَبِرَحْمَتِكَ وَمِنْ دَعْوَتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْقَدِيمُ الْأَبَدِيُّ

سَيِّدِنَا الْأَعْبَعُ

ہمارے سردار سیاہ چشم والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-AD‘AḤU ﷺ
 (Our Leader the Dark-Eyed ﷺ)

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے
 جو وصف حضور اقدس ﷺ کا
 بیان کیا ہے، اس میں وہ بیان
 کرتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں
 سیاہی تھی۔

قالت ام معبد رضی اللہ عنہا
 فی صفته ﷺ
 فی عینہ دعج -
 (المستدرک للحاکم ج ۳ ص ۹)

Hadrat Umm Ma'bad رضی اللہ عنہا while describing the
 qualities of the Almighty Allāh's Prophet ﷺ said:
 "His eyes were black."
 -(Al-Mustadrak Lil Hākim V3,P9)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب
 حضور اقدس ﷺ کی صفت بیان
 کرتے تو فرماتے کہ آپ سیاہ آنکھوں
 والے تھے۔ لغت کے امام کسائی،

عن علی کرم اللہ وجہہ
 انه کان اذا نعت
 رسول الله ﷺ
 قال... ادعج العينين -

اصمعی اور ابوعمر و رحمہم اللہ
 سے اس کا معنی یوں منقول ہے
 کہ یہ لفظ آنکھوں کی پتلی کی سخت
 سیاہی پر بولا جاتا ہے۔

روی عن الكسائي والاصمعي
 و ابى عمرو و الادعج هو
 شديد سواد الحدقة
 (تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۲۹)

While describing the Almighty Allāh's Prophet ﷺ
 Ḥadrat 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ said: "The Almighty Allāh's
 Apostle's (ﷺ) eyes were jet-black and large."

The experts of the lexicon Imām Kasā'i, Al-Asma'i and
 Abu 'Amr have related that the term "AD'AJ" is used to
 describe the intensely black pupils in the eyes.

-(Tarīkh Ibn Kathīr V6, P29)

أَدْعَجُ (مدارج النبوة ج ۱ ص ۱۰)
 غُوبُ سِيَاهِ حَشِيمٍ

Al-Ad'aj stands for the jet-black eyed.

-(Madārij Al-Nubuwwah V1, P8)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لَوَاحِشَةِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِي يَا مُحَمَّدُ الْبَشَرِ الْأَخْيَرِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَصَلِّمْ بِمَدُونِ عَلَىٰ سَلَامٍ إِنَّ
 رَجْعِي وَمَعْدَنِي وَعِلْمِي وَجَنَّتِي وَبَيْتِي وَبَنِيَّ وَبَنَاتِي وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْنَىٰ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا مُحَمَّدُ

سَيِّدُنَا الْأَدْوَمُ

ہمارے سردار عمل پر ہمیشگی کرنے والے دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ اللَّهِ سَیِّدِ

Sayyidunā AL-ADWAMU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 Persistent in Godliness صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ سچائی کا قصد کرو، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تمہارے عمل تمہیں جنت میں داخل نہ کرینگے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیار عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال سددوا و قاربوا و اعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة و ان احب الاعمال ادومها الى الله و ان قل -
 (اصحح البخاری ج ۲ ص ۹۵)

Ḥadrat 'A'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا has narrated the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "Show the right way (by deeds) and draw near to Allāh the Almighty. Remember

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

well that your deeds alone will not take you to Paradise. Actually the deeds most liked by Allāh the Almighty are those that are performed continuously and regularly, however small in number."

-(*Sahīh Al Bukhāri V2, P957*)

حضرت علقمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین! " حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے اعمال و عبادات کا کیا طریقہ تھا؟ " ایادوں میں سے کوئی خاص دن عبادت کیلئے مقرر فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں! آپ کے اعمالِ دائمی ہوتے تھے اور جو کام حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کر سکتے تھے، تم میں سے کون کر سکتے۔

عن علقمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سألت أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قلت ، يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل كان يخص شيئاً من الايام قالت لا كان عملة ديمة و ايكم يستطيع ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستطيع .
 (مصحح البغاري ج ۲ ص ۹۵۷)

Hadrat 'Alqama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ narrates: "I asked Hadrat 'A'isha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: 'O Mother of the Believers (*Umm al-Mu'minin*), how did our Holy Prophet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ worship Allāh the Almighty? Did he specify any particular day of the week for worship of Allāh the Almighty?' She replied: 'No! The Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ carried out his religious duties and worship (*A'māl*) on a continuous and regular basis. Who among you could perform deeds like him صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?"

-(*Sahīh Al-Bukhāri V2, P957*)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت كان عمل رسول الله

کا عمل ہمیشگی کا تھا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيمَةٌ -

نَسِيمُ الرِّيَاضِ ج ۲ ص ۱۴

Hadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا narrates: "The practices of the Holy Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ were continuous and regular."

-(Nasīm Al-Riyād V2, P140)

حضرت مسروق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے میں نے پوچھا کہ حضور
 اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو کون سا عمل
 پسند تھا، جواب دیا کہ دوامی عمل اور
 پھر پوچھا تمہارے لیے کس وقت
 اٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب
 دیا کہ صارخ (مرغے) کی آواز
 سُن کر۔

عن مسروق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قال سألت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 أي العمل كان أحب
 إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت
 الدائم قلت فأي حين
 كان يقوم قالت يقوم
 إذا سمع الصارخ -
 (صحیح البخاری ج ۲ - ۹۵۷)

Hadrat Masrūq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narrates: "I asked Hadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : 'What practice ('Amal) was most liked by the Holy Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?' She said: 'The regular one!' I asked: 'At what time did the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ get up (at night for Tahajjud (the mid-night prayer))?' She replied: 'The Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ used to get up upon hearing the cockerel's cry (during the last third of the night).'"

-(Saḥīḥ Al-Bukhārī V2, P957)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِي بَالٍ مِنْهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
 مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

سَيِّدِنَا أَذُنٌ خَيْرٌ

ہمارے سرسار سُننے والے بھلائی کے دُور و دُور پہنچانے والے

Sayyidunā UDHUNU KHAIRIN ﷺ
 (Our Leader
 the Listener of Good ﷺ)

اشارہ الی قولہ:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
 النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ
 ذُنٌّ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ
 لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ ط

(توبہ: 61)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:

”اور بعضے ان میں سے وہ ہیں جو
 ایذا دیتے ہیں نبیؐ کو اور کہتے ہیں کہ
 آپؐ ہر بات کان دے کر سُن لیتے
 ہیں۔ آپؐ فرما دیجیے کہ وہ نبیؐ کا
 کان ہے تو وہی بات سُننے میں جو تمہارا
 حق میں خیر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے
 ہیں اور مؤمنین پر یقین کرتے ہیں اور
 آپؐ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے
 ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔“

Reference to the Holy Qur‘ān:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

Among them are men
 Who molest the Prophet (ﷺ)
 And say: "He (ﷺ) is all ear.
 Say, "He (ﷺ) listens to what is
 Best for you. He believes
 In Allāh the Almighty, has faith
 In the believers and is a mercy
 To those of you who believe."
 -(Al-Tawbah 9:61)

منافقین کہتے ہیں کہ وہ (پیغمبر) ہر ایک
 کی بات سننے والا شخص ہے کہ اسے جو
 کچھ کوئی کہے سن لیتا ہے۔ اے محمد
 (ﷺ)؛ ان کو کہہ دیجئے ان کا سننا
 تمہارے لیے بہتر ہے یعنی آپ اچھی
 طرح سننے والے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں
 کہ تم ان کی برائی کرو بلکہ آپ سننے والے
 ہیں جن بات کو اور قبول کرنے والے نیک بات کو۔

می گویند او مردے سخن شنو
 ہست کہ ہرچ باد میگویند آسماع
 میکند قل بگوئے محمد ﷺ ایشان را
 اذن خیر است مر شمار اینے او
 اذن است ز بردجھے کہ شما
 از روست مذمت میگویند بکہ
 شنوئدہ و قبول کفندہ نیگو است
 (تفسیر حسینی ص ۲۲۴)

The hypocrites say: "The Messenger ﷺ of Allāh the Almighty lends an ear to everyone. He listens to what people say to him. O Muḥammad ﷺ, tell these hypocrites that it is in their own interest that you listen to them; because you are a good listener and you wish evil to no one. You listen to all and accept only that which is righteous."
 -(Tafsīr Husaini, P227)

قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ جیسے
 اپنی مایہ ناز کتاب احکام القرآن
 جلد ۲ صفحہ ۱۷۱ میں فرماتے ہیں:
 اور "اذن خیر" کے معنی ہیں کہ آپ

قال القاضي ابن العربی
 رحمہ اللہ علیہ فی کتابہ "احکام
 القرآن جلد ۲ ص ۱۷۱:
 واما "اذن خیر" فهو

اللہ کی وہی ہوتی فضیلت اور اک
سے آواز ہی سے پہچان لیتے ہیں۔
اسی بات کو یاد رکھتے ہیں جو بہتر
ہوتی ہے اور وہی بات سنتے ہیں
جو اچھی ہوتی ہے۔

عزنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ
حضور اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا اسم گرامی
(اذن خیر) اس لیے ہے کہ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت
بخشی کہ آپ آواز سے لوگوں کو پہچان
لیتے تھے۔ ان باتوں میں سے بہتر
بات ہی باقی رہتی تھی اور سوائے اُن
بات کے کوئی نہ سنئی جاتی تھی۔

بما اعطاه الله من فضيلة
الادراك لقيال الأصوات
لا يبي من ذلك الا
خيراً ولا يسمع الا احسنه
قال العزني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وأما اسمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أذن خير) فهو ما اعطاه
من فضيلة الإدراك لبیان
الأصوات فلا يبقی من
ذلك خير ولا يسمع من
القول إلا أحسنه -
(سبل الهدى ج- ص ۵۲۶)

Qādi Abu Bakr Ibn Al-'Arabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narrates in his celebrated book *Ahkām-ul-Qur'ān* Volume Two on Page 171: "Udhunu khair means that The Messenger of Allāh the Almighty صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ is bestowed with a 'good ear' (Udhunu khair) by the grace of Allāh the Almighty, Who blessed him with the sensory perception to distinguish and remember only the good that is being said, so that he listens to only what is best."

Azafi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ states: "The name UDHUNU KHAIR is associated with the Almighty Allāh's Prophet صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ because Allāh the Almighty has bestowed upon him the excellent quality of recognising people by their voices. He retained what was good and always listened to that which was best."

-(Subul Al-Hudā V1, P526)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُخَيِّرْ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْبَرِّ وَالصَّالِحِ وَالْمُرْتَدِّعِ وَالْمُؤْتَمِرِ
 وَمَوْلَى خَلْقِكَ وَرَبِّ عَالَمِينَ وَمَوْلَى كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا أَرَأَيْتَ نَاسًا

اللَّهُ ﷺ

ہمارے سردار سب سے زیادہ مشفق مہربان دُور و قُرب سے سب سے محبوب ہے

Sayyidunā AR-'AFUN-NĀS ﷺ
 (Our Leader the
 Most Affectionate of all People ﷺ)

حضور اقدس ﷺ لوگوں کے
 ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ شفقت کرنے
 والے تھے۔

كان أرف الناس
 بالناس -
 (احیاء السلوٰۃ الغزالی ج ۲- ص ۳۶۲)

The Holy Prophet Muhammad ﷺ was the most affectionate of people to people.
 - (Al-Ihyā' Al-'Ulūm by Al-Ghazālī V2, P362)

یہ حدیث "کہ حضور اقدس
 ﷺ لوگوں کے ساتھ تمام
 جہان سے زیادہ شفقت فرمانے والے
 تھے اور لوگوں کیلئے بہترین تھے اور آپ
 کی ذات سے لوگوں کو زیادہ نفع ہوتا
 تھا" مشہور و معروف ہے۔

حدیث "کان أرف
 الناس بالناس و خیر
 الناس للناس و انفع
 الناس للناس" هذا
 من المعلوم -
 المعنی لزیّن العراق ج ۲- ص ۳۶۳

The *Hadīth* “that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the kindest, most gracious and most benevolent to all mankind,” is well recognised.

-(*Al-Mughni* by Zain Al-İraqi V2, P363)

علامہ خطابیؒ نے رحمت اور رافت	فرق الخطابی بین الرحمة
کے درمیان ایک لطیف فرق پیدا کیا ہے	والرافة دقیقاً:
کبھی رحمت مصلحت کے طور پر کراہیت	قد تكون الرحمة مع الكراهة
کے ساتھ پائی جاتی ہے لیکن شفقت میں	للمصلحة ولا تكاد الرافة تكون
یہ چیز نہیں وہ کراہیت میں نہیں پائی جاتی۔	في الكراهة (كتاب الاسماء والصفات لمام أبيهوق)

'Allāma Al-Khaṭṭābī رحمته الله has drawn a delicate distinction between the word *Rahma* (Kindness) and *Al-Ra'fa* (Affection): He contends that the word *Rahma* may contain some element of dislike (of the person concerned) but there is no basis for dislike in the word *Ra'fa*.

-(*Kitāb Al-Asmā' Was-Şifāt* by Imām Al-Baihaqi P43)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ كَلِمَةَ الْإِنْسَانِ
 الْهُوَ صِلَ وَسَلَوُكَ بِرُحْمَةٍ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَرَحْمَتِنَا عَلَى مَا نَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ عَلَيَّ
 وَمَا نَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ عَلَيَّ وَمَا نَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ عَلَيَّ وَمَا نَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ أَوْ عَلَيَّ

سَيِّدِنَا الْأَرْحَحُ

ہمارے سردار سب سے وزنی دروڑ و سلا مہج اللہ آپ

Sayyidunā AL-ARḤAḤU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Most Superior in Weight صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جب آپؐ نبی بنائے گئے تو آپؐ نے کیوں کر حبان لیا کہ آپؐ نبی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو ذر! میرے پاس دو فرشتے آئے اور میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تھا۔ ایک فرشتہ تو زمین پر اتر آیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کیا

عن ابی ذر الغفاریؓ قال قلت یا رسول اللہ ﷺ کیف علمت انک نبی و حتی استیقنت فقال یا اباذر اتانی ملکان و انا ببعض بطحاء مکة فوق احدھما علی الارض و کان الاخر بین السماء و الارض فقال احدھما

لصاحبه أهو هو قال
 نعم قال فزنه
 برجل فوزنت به
 فوزنته ثم قال
 فزنه بعشرة فوزنت
 بهم فرجحتهم ثم
 قال زنه بمائة
 فوزنت بهم فرجحتهم
 ثم قال زنه باللف فوزنت
 بهم فرجحتهم كافي
 انظر اليهم يسقطون
 على من خفة الميزان
 قال فقال احدهما لصاحبه
 لو وزننته بامته
 لرجحها -

(سنن الدارمي)

الجزء الاول ص 1 شمارہ ۱۲

یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں
 یہ وہی ہیں۔ پھر اس نے کہا ان کو
 ایک آدمی کے ساتھ تولو، مجھے ایک
 آدمی کے ساتھ تولا گیا تو میں اس
 سے بھاری نکلا، پھر اس نے کہا ان کو
 دس آدمیوں کے ساتھ تولو، میں دس
 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا تو میں ان
 سے بھی بھاری نکلا۔ پھر اس فرشتے
 نے کہا ان کو سو آدمیوں سے وزن
 کرو۔ مجھے تولا گیا تو میں ان سے بھی
 بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کو
 ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ تولو۔ مجھے
 ان سے تولا گیا تو میں ان سے بھی
 بھاری نکلا۔ میں نے ان کو نیچے دیکھا
 ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس پلٹے سے
 مجھ پر گر رہے ہیں گویا ان کی ترازو ٹکی ہے
 آپ نے فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں میں
 سے ایک سے کہا کہ اگر تمام جہان کو ایک
 پلٹے میں رکھا جائے اور آپ کو دوسرے
 میں تو آپ ان سے وزنی نکلیں گے۔

Abu Dharr Al-Ghifāri رضي الله عنه narrates that he asked the
 Almighty Allāh's Apostle ﷺ: "O Messenger of
 Allāh the Almighty ﷻ, how did you come to know

that you are the Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" He replied: "O Abu Dharr! I was at some place in Makkah when two angels came to me. One of them had descended to Earth while the other stood between the Earth and the Sky. One of them asked the other: 'Is that him?' The other replied: 'Yes'.

"Then the first angel said: 'Weigh him against one man.' So the angel weighed me against one man. I outweighed him. Then the first angel said: 'Weigh him against ten men.' So he weighed me and I outweighed them. Then he said: 'Weigh him against one hundred men.' He weighed me. Again I was found heavier than them. Then the angel said: 'Weigh him against one thousand men.' So he weighed me against them.' Again, I was found heavier and when I looked up at them, I could see them almost falling on to me because their side of the scale was too light. So one of them said to the other: 'Even if you weigh him صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ against the whole of his *Ummah*, he will come out heavier.'"

-(*Sunan Al-Dārimī V1, P17, No. 14*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْهُ الْإِنْبَاءُ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى آلِهِ وَارْحَمْ عَلَيْهِمْ
 وَمَعَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ نَبِيٍّ مِثْلِكَ وَبِشَرِّكَ وَمِنَادِّ عَمَلِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِنَا
 أَحْمَدُ الْبَرَكَاتِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ عقلمند دُرودِ سلامِ محمدی اللہ پر ہے

Sayyidunā
 ARFAH-UN-NĀS 'AQLAN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most
 Intelligent of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

قال الله تعالى ، وَعَلَّمَكَ
 مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. (نساء)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تجھے اللہ نے
 وہ علم عطا کیا جو تو نہیں جانتا تھا اور
 تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔

Reference to the Holy Qur'an:

.....And taught thee what thou
 Knewest not (before):
 And great is the Grace
 Of Allāh the Almighty on to thee.
 -(An-Nisā' 4:113)

حارت العقول في
 تقدير فضله عليه - (نسيم الرياض ص 8)

آپ کے علم کے سامنے عقولیں
 حیرت زدہ ہیں۔

The knowledge of the Holy Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ is so
 profound that all intellect is amazed.

-(Nasīm Al-Riyāḍ V2, P8).

رَبَّنَا نَقْبِلُ مِمَّا آتَاكَ آتَيْتَ السَّمْعَ الْعَلِيمَ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ
 کا بیان ہے کہ میں نے اکہتر
 کتابوں میں پڑھا ہے، ان میں لکھا
 پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دُنیا
 پیدا کی ہے، اس کے ختم ہونے تک
 جو عقل دُنیا کو دی ہے اور جو عقل
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 عطا کی گئی ہے ایسے ہی ہے جیسے
 دُنیا کی عقل (حضور کے مقابلہ میں)
 تمام ریت کے ذرات میں سے
 ریت کا ایک ذرہ، اور حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ
 عقل مند ہیں۔

عن وہب بن منبہ
رضی اللہ عنہ قال قرأت فی احد
 وسبعین کتاباً فوجدت فی
 جميعها ان الله لم يعط
 جميع الناس من بدء الدنيا
 الى انقضاءها من العقل فی
 جنب عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 الا كحبة رمل من
 بين جميع رمال الدنيا و
 ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم ان جم
 الناس عقلاً۔

رواه ابن نعیم - شرح المواہب اللدنیة
 ج ۳ ص ۱۲۰

Wahb bin Munabbih رضی اللہ عنہ states: "I have read seventy one books. In all of them I have found that, from the creation of the Universe until the Day of Judgement, Allāh the Almighty has not granted whole mankind as much intelligence as He has to his Holy Prophet Muḥammad صلی اللہ علیہ وسلم. (Take it) that the intelligence of mankind as a whole is like a single grain of sand compared to all the sand in the world. The Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is indeed the most intelligent person in the whole Universe."

-(Narrated by Abu Na'īm, Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladunīya V3, P120)

حضرت زہیر بن صرد رضی اللہ عنہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان فرماتے

وقال زهير بن
 صرد رضی اللہ عنہ يمدحه صلی اللہ علیہ وسلم

و زاده شرفاً و فضلاً لدیہ:
" ان لم تدارکھم
نعماء تنشرھا
یا أرحم الناس
حلما حین یختبر " (سبل الہدی ج ۱ ص ۵۲۶)

ہیں :-
" اے وہ سہتی کہ جب پرکھا جائے تو
وہ سب بڑھ کر صاحبِ حلم ہے اگر
آپ کی بکھیری ہوئی نعمتوں نے ان امیران
بنو سعد کی دستگیری نہ فرمائی تو آپ
ہی بتائیے کہ پھر یہ کس سے امید لگائیں؟

Hadrat Zuhair bin Surad رَضِيَ اللهُ عَنْهُ praised the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ thus: "O you, who, whenever tested, prove to be the most tolerant and forbearing of all! If these people (prisoners from Banu Sa'ad) are not favoured by your generous kindness (then to whom can they turn in hope?)."

-(Subul Al-Hudā V1, P526)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولَىٰ لَهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا
 عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا عَلَيَّ يَا رَحِيمًا

سَيِّدُنَا أَرْحَمُ النَّاسِ

ہمارے سردار سب سے زیادہ رحیم درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

Sayyidunā ARHAM-UN-NĀS ﷺ
 (Our Leader the
 Most Merciful of All ﷺ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ حضور اقدس ﷺ کا وصف بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں لوگوں کے ساتھ زیادہ رحم کرنے والے تھے اور کہا اس کو روایت کیا ہم نے فوائد ابی الدرداح جلد اول میں۔

عن علی رضی اللہ عنہ
 فی صفة النبی ﷺ
 كان ارحم الناس
 بالناس وقال روينا
 فی الجزء الاول من
 فوائد ابی الدرداح -
 (المغنی للمراق ج ۲ ص ۲۶۳)

Hadrat 'Ali رضی اللہ عنہ has described the qualities of the Almighty Allāh's Prophet ﷺ thus: "The Almighty Allāh's Prophet ﷺ was the most merciful of all people. This we have narrated in the book 'Fawā'id Abi Al-Dahdah' Volume 1."

-(Al-Mughni by Al-'Iraqi V2, P363)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:
آپؐ کل جہان کے لیے
رحمت تھے جس نے آپؐ کی
مابعداری کی، اس کو سیدھا راہ دکھایا۔

عن صفیة بنت
عبد المطلب رضي الله عنها
رحمة كان للبرية طراً
فهدى من اطاع للسداد
(طبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٣)

Hadrat Şafīyya bint 'Abdul Muṭṭalib رضي الله عنها states:
"He ﷺ was mercy to the whole of mankind and
whosoever obeyed him was guided to the right path."

-(Ṭabāqat Al-Kubrā by Ibn Sa'ad V2, P330)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَوَعْتَظِرِ بَعْدَهُ وَعَلَى مَنَّا مَنَّا
 وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ وَمَنْدُوعَلَيْكَ

سَيِّدِنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ہمارے سزاوار اپنے اہل و عیال کی بھاری بھاری رحمتوں کے درو و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā
 ARḤAM-UN-NĀS BIL-'AYĀL ﷺ
 (Our Leader the Kindest
 of All People to His Family ﷺ)

حضرت انس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال سے پیار کرنا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما نواح مدینہ میں دودھ پیتے تھے اور آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جوتے تھے اور (ان کے) گھر بھی تشریف لے جاتے۔ وہاں دھواں ہوتا کیونکہ ان کا

عن انس رضی اللہ عنہما قال ما رأيت احداً كان ارحم بالعيال من رسول الله ﷺ قال كان ابراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظهره

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

رضاعی باپ لوہا تھا۔ چنانچہ آپ
 بچہ کو لیتے اور پیار کرتے پھر لوٹ
 آتے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بیان
 کرتے ہیں کہ جب سنت ابراہیم رضی اللہ عنہ
 کا انتقال ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے۔ وہ
 حالت رضاعت ہی میں انتقال
 کر گیا۔ اب اسے دو دایہ ملی ہیں
 جو جنت میں مدت رضاعت تک
 اسے دودھ پلائیں گی۔

فَتِيناً فَيَاخُذُهُ فَيَقْبَلُهُ
 ثُمَّ يَرْجِعُ قَالُ
 عَمْرُو فَلَمَّا تَوَفَّى اِبْرَاهِيمَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 اِنَّ اِبْرَاهِيمَ ابْنِي
 وَ اِنَّهُ مَاتَ فِي
 الشَّدَى وَ اِنَّ لَهٗ
 لَطُزْرَيْنِ تَكْمَلَانِ
 رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
 (المصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۲۵۴)

Hadrat Anas bin Mālik رضی اللہ عنہ has reported: "I have never seen anyone kinder to one's family than the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم. His son Ibrāhīm رضی اللہ عنہ was sent to a suburb of the Holy City of Madina to a wet nurse. The Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم used to visit him, and we accompanied him. He would enter the wet nurse's house, which would be filled with smoke as her husband was a blacksmith. The Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم would always take his son Ibrāhīm, kiss and cuddle him and then return."

Hadrat 'Amr رضی اللہ عنہ reports that when Ibrāhīm died, the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said: "Ibrāhīm is my son and he has died in infancy. He has now two foster-mothers who will complete his feeding period in Paradise."

-(Saḥīḥ Muslim V2, P254)

حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ کسی آدمی نے حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ

عن عمرو رضی اللہ عنہ
 قال سألت رجلاً عائشة
رضی اللہ عنہا هل كان رسول الله

کیا حضور اقدس ﷺ اپنے گھر
 میں کچھ کام کیا کرتے تھے؟ تو انہوں
 نے فرمایا ہاں حضور اقدس ﷺ
 اپنا پاپوش مبارک خود گانٹھ لیا کرتے
 تھے اور اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے
 جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں
 کام کرتا ہے۔

يَمْلَأُ فِي بَيْتِهِ
 قَالَتْ نَعَمْ كَانَ يَخْتَصِمُ
 نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ كَمَا
 يَمْلَأُ أَحَدُكُمْ فِي
 بَيْتِهِ .

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۴۳)

Hadrat 'Urwa رضي الله عنها reports that a man inquired of Hadrat 'A'isha رضي الله عنها: "Did the Almighty Allāh's Prophet صلى الله عليه وسلم ever work in his own home?" She replied: "Yes, he used to mend his own shoes and stitch his own clothes, just as anyone of you work in your home."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P44)

حضرت انس رضي الله عنه سے
 روایت ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ
 بچوں کے پاس گزرتے جو کھیل رہے
 ہوتے تو آپ ان کو السلام علیکم
 فرماتے۔

عن انس رضي الله عنه ان
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مر على صبيان يلعبون
 فسلم عليهم .

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۴۶)

Hadrat Anas رضي الله عنه relates: "Whenever the Almighty Allāh's Apostle صلى الله عليه وسلم passed by some young children playing, he would always greet them, (i.e. by saying: 'ASSALĀM-U-'ALAYKUM - peace be upon you)."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P46)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِي وَأَهْلِي وَعَصْرِي وَمَنْ عَلَىٰ مِثْلِي
 وَمَنْ وَجَّهْتَ وَجْهَكَ وَبَدَّخْتَهُ وَمِنَاةً عَلَىٰ بَيْتِكَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ اللَّهُ الَّذِي كَرَّمْتَهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

سَيِّدُكُمْ أَرْحَمُكُمْ

ہمارے سردار سب سے زیادہ تیرا انداز دُرود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā ARMAN-NĀS ﷺ
 (Our Leader the Best in Archery ﷺ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس
 ﷺ جیسا فائدہ دانی اور سخی
 اور بہادر اور تیرا انداز نہیں دیکھا۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ما رأيت انجد ولا اجود
 ولا اشجع ولا ارمي
 من رسول الله ﷺ
 (احياء العلوم ج ۲ ص ۳۸۰)

Hadrat Ibn 'Umar رضی اللہ عنہما has narrated: "I had never seen anyone better in terms of supporting his family, generosity, valour, and archery, than the Messenger of Allāh the Almighty ﷺ."
 -(Ihyā' Al-'Ulūm V2, P380)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس
 ﷺ سے سنا آپ منبر پر

عن عقبه بن عامر
رضی اللہ عنہ يقول سمعت رسول الله
ﷺ وهو على المنبر

يقول " وَاعِدُوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
إلا ان القوة الرمي
إلا ان القوة الرمي
إلا ان القوة الرمي
(الصحيح لمسلم ج ٢ - ص ١٢٣)

یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے:
" وَاعِدُوا لَهُمْ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ "
خبردار! قوت سے مراد تیرا انداز
ہے، قوت سے مراد نشانہ باندھنا
ہے، قوت سے مراد تیرا انداز ہے۔

It has been narrated on the authority of Hadrat 'Uqba bin 'Amir رضي الله عنه, who reports that the Messenger of Allāh the Almighty صلى الله عليه وسلم stood upon the *Minbar* and recited: "Prepare to meet them with as much strength as you can afford -(*Al-Qur'an* 8:60)". Indeed, strength is the skill in archery. Indeed, strength is the skill in archery. Indeed, strength is the skill in archery."

-(*Sahih Muslim V2, P143*)

عن عبد الرحمن بن
شماسه ان فقيماً للنجعي
قال لعقبة بن عامر
تختلف بين هذين
الغرضين و انت كبير
ليشق عليك قال عقبة
لو لا كلام سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم اعانيه قال الحارث
فقلت لابن شماسه
وما ذاك قال انه
قال من علم الرمي

حضرت عبدالرحمن بن شماس
رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت
فقیم النجعی رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن
عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان
دونوں نشانوں میں آجاتے ہیں تو بڑھ
ضعیف ہو کر آپ پر مشکل ہوتا ہوگا۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے
کہا اگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک بات نہ سنی ہوتی تو میں
یہ مشقت نہ اٹھاتا۔ حضرت حارث
کہتے ہیں کہ میں نے ابن شماس
رضی اللہ عنہ سے کہا وہ کیا بات تھی؟

انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا
 جو کوئی تیر بازنا سیکھے پھر اسے چھوڑ دے
 وہ ہم میں سے نہیں یا اس نے نافرمانی کی۔

ثم تركه فليس
 منا او قد عصى۔
 (الصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۱۳۳)

It has been reported by Ḥadhrat 'Abd al-Rahmān bin Shamāsa رضي الله عنه that Fuqaym al-Lakhmi رضي الله عنه said to 'Uqba bin 'Amir رضي الله عنه: "You frequently hit between these two targets. Being an old man, you must be finding it very hard."

Ḥadhrat 'Uqba bin 'Amir رضي الله عنه said: "Had it not been for something I heard from the Holy Prophet ﷺ I would not be straining myself." Ḥadhrat Ḥārith رضي الله عنه said: "I asked Ibn Shamāsa رضي الله عنه and what was that?"

He replied that the Almighty Allāh's Prophet ﷺ said: "Whoever learns archery and then gives it up is not from us or he would be guilty of disobedience to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ."

-(Saḥīḥ Muslim V2, P143)

حضرت عقبہ بن عامر رضي الله عنه بیان
 کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ
 سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر تم قریب
 تمہارے ہاتھوں پر کسی ملک فتح ہو گئے
 اور اللہ تمہارے لیے کفایت یا یر کا انڈا کوئی
 تم میں سے اپنے تیر کا کھیل یعنی نشانہ
 کی مشق نہ چھوڑے۔

عن عقبه بن عامر رضي
 قال سمعت رسول الله
 ﷺ يقول ستفتح عليكم
 ارضون ويكفيكم الله فلا
 يعجز احدكم ان يلهو با
 سهمه - (الصحيح لمسلم ج ۲ ص ۱۳۳)

Ḥadhrat 'Uqba bin 'Amir رضي الله عنه relates having heard the Holy Prophet ﷺ say: "You will conquer many a country soon. And Allāh the Almighty will make provision for you. Therefore, none among you should miss the exercise of archery and targeting."

-(Saḥīḥ Muslim V2, P143)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَقْبَلُ لِحُجَّةِ الْإِبْرَاهِيمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْمَسَ مِنْكَ الْإِسْلَامَ وَوَجَّهَ لَكَ الْوَجْهَ
 وَبَدَأَ خَلْقَكَ وَجَعَلَ نَسَبَكَ وَبَدَأَ خَلْقَكَ اسْتَشْفَى لَكَ الْإِسْلَامَ وَالْحَقُّ لِلَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ

سَيِّدُكَ أَرْوَعُ مِضْرٍ

ہمارے سردار بنی مضر کی باعرب شخصیت دو دو سلام بھیجیے اللہ پر

Sayyidunā ARWA'U MUḌAR ﷺ
 (Our Leader the Distinguished Leader
 of the Muḍar Tribe ﷺ)

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا گھرانے والے مضر
 قبیلے کے باعرب اونچی شان والے
 پسندیدہ منتخب۔

قالت صفیة بنت عبدالمطلب
 کریم الخیم اروع مضر حتی
 طویل الباع منجب نجیب
 طبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص ۳۲۹

Ḥaḍrat Ṣafīyya رضي الله عنها, daughter of 'Abdul Muṭṭalib
 said in praise of the Almighty Allāh's Prophet
 ﷺ: "O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ! You
 are the most distinguished member of a great tribe, the
 tribe of Muḍar. You are born of noble descent and the
 most dignified of all."

-(Ṭabaqāt Al-Kubrā V2, P329)

مضر م کا ضمہ اور ض نقطہ والے کی
 فتح۔ یہ لقب اس کا اس بنا پر پڑا کہ

مضر بضم الميم وفتح الضاد
 المعجمة ... لقب بذلك

وَمَا أَقْبَلُ هَذَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

جو ان کو دیکھتا دل کپڑ کر بیٹھ جاتا کیونکہ
اس کا حسن و جمال بہت اونچا تھا۔

لانہ کان یضیر قلب من راہ
لحسنہ وجمالہ۔

(سبل الہدی وللشاد جلد ۱ ص ۳۳۲)

This title Muḍar spelt with the short vowels *ḍamma* (u) on the *mīm* and *fatha* (a) on the *dād* is given to the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ because whosoever saw him became captivated by his countenance and beauty.

-(Subul Al-Hudā V1, P342)

حضرت عبداللہ بن خالد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے فرمایا کہ مضر کو گالی نہ دو کیونکہ وہ
مسلمان ہو گیا تھا۔

عن عبد الله بن خالد
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا مَضَرَ
فَأَنَّهُ كَانَ قَدْ اسْلَمَ۔
(طبقات الکبری لابن سعد ج ۵ ص ۵۸)

Hadrat 'Abdullāh bin Khālid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ narrates the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "Do not curse Muḍar because he embraced Islam."

-(Ṭabaqāt Al-Kubrā V1, P58)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْعَبَاةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَالْأَنْبِيَاءِ الْأَمْمَةِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشَرَتِهِمْ عَلَى سَلَامٍ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَبِعَمَلِكَ وَبِحَبْلِكَ وَبِعِزَّتِكَ وَمِنَادٍ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا الْأَزْجَجُ

ہمارے سردار کمان دار ابرو والے دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ الْاَلَمِ

Sayyidunā AL-AZAJJU ﷺ
(Our Leader
with Beautiful Arched Eyebrows ﷺ)

المقوس الحاجب - کمان دار ابرو والے
شرح المواہب اللدنیۃ للزرقاتی ج ۳ ص ۱۲۳

The Almighty Allāh's Prophet ﷺ had beautifully arched eyebrows.
-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ludunīya V3, P123)

عن الحسن بن علی عن
خالد قال كان رسول الله
ﷺ واسع الجبين ازجج
الحواجب سوانج في غير قرن.
(تاريخ ابن كثير ج ۶ ص ۱)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اپنے
ماموں ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہما سے
روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس
ﷺ فرخ پیشانی مالک تھے دلاز اور
باریک لپٹی ابرو والے جو نہ ملی ہوئی تھیں۔

Hadrat Hasan Ibn 'Ali رضی اللہ عنہما reports his maternal

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

uncle Hind bin Abu Hāla رَضِيَ اللهُ عَنْهُ as saying: "The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ had a broad forehead and fine bow-shaped eyebrows with a gap between them."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P17)

زنج فی الحواجب سے مراد یہ ہے
 کہ ابرو طویل اور کمان دار ہوں اور
 پوری ہوں۔

قوله : ازج الحاجبین
 سوانج الزنج فی الحواجب ان
 یکون فیما تقوس مع طول فی
 اطرافها وهو السبوغ فیها

(دلائل النبوة ج ۳ ص ۲۲۹)

The Arabic phrase 'Azajj ul-Hājibayn' means extended, fully grown, long and bow-shaped eyebrows.

-(Dalā'il Al-Nubuwwah V3, P229)

زنج کا معنی ابرو کا باریک اور
 لمبی ہونا ہے اور ازج صفت
 کے طور پر بیان ہوا ہے۔

زنج باریکی و درازی ابرو
 و ازج نعمت منہ۔
 صراح - ج ۱ ص ۱۳۸

'Zajajj' means thin, but very fine, extended eyebrows. The word 'Azajj' is used to praise the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-(Şuraḥ V1, P148)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَخْفَى وَمَا يَكْفُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَدَدُ خَلْقِهِ وَحُجَّتْ فُضَيْتُ وَمَا دَعَا بِكَ اسْتَفْهَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَهُوَ

سَيِّدُكَ الْأَزْكَى

ہمارے سردار سب سے زیادہ پاکیزہ درود و سلام بھیجے لا آیت

Sayyidunā AL-AZKĀ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Pure صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

الازکی بالزای من الطهارة ای اطهر العالمین۔
 (شرح المواہب اللدنیة للتطلابی ج ۱ ص ۱۲۳)

الازکی 'زک' کے ساتھ طہارت سے ہے یعنی آپ تمام جہانوں سے پاکیزہ تھے۔

The word *Al-Azkā*, which begins with the character (*zā*) denotes purity; that is the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the purest of all people.
 -(Sharḥ Al-Marwāhib Al-Ludunya by Al-Qastalāni V3, P123)

و إشارة الى قوله : " هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي

اشارہ ہے اس آیت کی طرف : " وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا تے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی

سکھلاتے ہیں اور یہ لوگ پہلے سے
 کھلی گمراہی میں تھے۔



ضَلَّلِ مُبِينٍ

(سورة الجمعة ۲)

Reference to the Holy Qur'an:

It is He Who has sent
 Amongst the Unlettered
 An Apostle from among
 Themselves, to rehearse
 To them His signs,
 To purify them, and
 To instruct them in the Scripture
 And wisdom, - although
 They had been, before,
 In manifest error; -
 -(Al-Jumu'a 62:2)

اور لفظ ازکی کا ذکر صفت
 کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
 میں فرمایا :



و ورد لفظ ازکی
 فی القرآن بمعنی صفتہ
 كما قال تعالى :

The word *Azkā* is mentioned in the Holy Qur'an in the
 meaning of a characteristic, such as in the following
 Verses:

”تمہارے لیے زیادہ صفائی اور
 زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ
 جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔“



۱: ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْرُقُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ

(البقرة ۲۳۲)

Reference to the Holy Qur'an:

.....That is (the course
 Making for) most virtue
 And purity amongst you.

And Allāh knows,
And you know not.
-(Al-Baqarah 2:232)

” اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس
جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہکے لیے
زیادہ پاکیزہ ہے۔“

۱۲ وَ اِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَاَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَى
لَكُمْ ط

(التورہ ۲۸)

Reference to the *Holy Qur'an*:

..... If ye are asked
To go back, go back:
That makes for greater purity
For yourself.
-(An-Nūr 24:28)

(اے محبوب!) ان کے مالوں میں سے
صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے
آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے
اور ان کے لیے دعائیہ کیجئے۔

۳ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تَطْهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

(التوبة ۱۰۳)

Reference to the *Holy Qur'an*:

Of their goods take alms,
That so thou mightest
Purify and sanctify them;
And pray on their behalf

-(Al-Tawbah 9:103)

جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک
رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری
آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں

۳ كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ
اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ۔

پاک کرتا ہے۔ (البقرة 151)

Reference to the *Holy Qur'an*:

A similar (favour
Have ye already received)
In that We have sent
Among you an Apostle
Of your own, rehearsing to you
Our Signs, and sanctifying
You

-(Al-Baqarah 2:151)

اے ہمارے پروردگار! اور اس عمت
کے اندر انہی میں کا ایک ایسا نبی بھی مقرر
کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں
پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور انکو آسمانی
کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیا کرے
اور ان کو پاک کرے۔

ه: رَبَّنَا وَابْتِئ فِيهِمْ
رَسُولًا وَتَنْهَضُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ ط

(البقرة 129)

Reference to the *Holy Qur'an*:

"Our lord! send amongst them
An Apostle of their own,
Who shall rehearse Thy Signs
To them and instruct them
In scripture and wisdom,
And sanctify them"

-(Al-Baqarah 2:129)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لَوَجْهَ الْأَبَا اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزَ بِمَدُونِي تَلْمِذِهِمْ أَنْ
 يَمُوتُوا وَيَمُوتُوا بِغَيْرِ حَقِّكَ وَيَمُوتُوا بِغَيْرِ حَقِّكَ وَيَمُوتُوا بِغَيْرِ حَقِّكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدُ الْأَزْهَرِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار سفید رنگ والے دُرُودِ سَلَامِ مُحَمَّدِ ﷺ

Sayyidunā AL-AZHARU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader with
 the Brilliant Fair Complexion صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور
 آپ کا پسینہ مبارک موتی کی طرح
 چمکتا ہوا تھا اور جب آپ چلتے تو
 آگے جھکتے ہوئے زور ڈال کر چلتے اور
 میں نے دیباچ اور حریر بھی اتنا نرم
 نہیں پایا جتنی کہ جناب رسول اللہ
 ﷺ کی سبیل مبارک تھی،
 اور مشکِ عنبر میں وہ خوشبو نہیں جو
 حضور اقدس ﷺ کے جسم اطہر

عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَ عِرْقُهُ
 اللَّوْلُوؤُ إِذَا مَشَى تَكْفَاءُ
 وَلَا مَسْتِ دِيْبَاجَةٍ وَلَا
 حَرِيرَةٍ الْيَنْ مِنْ كَفِّ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَلَا شَمْتِ مَسْكَةٍ وَلَا
 عَسْبَرَةٍ أَطِيبِ مِنْ رَاحَتِهِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 (الصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۲۵۴)

میں تھی۔

Hadrat Anas رضي الله عنه states: "The Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ had a sparkling (shimmering or radiant) white complexion. His perspiration shone like pearls. He walked well paced in dignity, and I had never touched brocade or silk as soft as the palm of the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

I had never smelt musk or amber as fragrant and sweet as the natural scent of the Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-(Saḥīḥ Muslim V2, P257)

حضرت عبد اللہ بن مسعود
رضي الله عنه سے روایت ہے کہ سب سے
 پہلی چیز جو میں نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 میں دیکھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے چچا
 کیساتھ مکہ کو مد آیا انہوں نے مجھے حضرت
 عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه کا
 پتہ بتایا، ہم وہاں پہنچے تو وہ چاہ
 زرم کے پاس بیٹھے تھے، ہم بھی ہاں
 بیٹھ گئے۔ ہم وہاں بیٹھے تھے کہ لچانک
 ایک شخص باب صفا سے نمودار ہوا
 جس کا رنگ سفید تھا جس پر سُرخ
 غالب تھی۔ ان کے بال پیچدار تھے
 جو کانوں کی لوت تک تھے، باریک اور
 اونچا ناک، چمکدار دانت، سیاہ
 آنکھیں، گھنی داڑھی، سینے پر بالوں

عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال ان اول شيء
 علمته من رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدمت مكة
 في عمومة لي فارشدونا
 الى العباس بن عبد المطلب
 فانتهينا اليه وهو
 جالس الى زرم فجلسنا
 اليه فبينما نحن عنده
 اذ اقبل رجل من
 باب الصفا ابيض
 تملوه حمرة له وفرة
 جعدة الى انصاف
 اذنيه اتى الانف
 براق الشيا اذ بع

کی لمبی کیر تھی۔ ہتھیلیاں بھاری اور
 پاؤں بھی بھاری بھر کم تھے۔ آپؐ پر
 دو سفید کپڑے تھے گویا کہ آپؐ
 چودھویں رات کے چاند ہیں۔

المینین کث اللحية
 دقيق المسربة شثن
 الكفين والقدمين
 عليه ثوبان ابيضان
 كأنه القمر ليلة
 البدر -

(رواه الحافظ ابى نعيم الاصبهاني -
 تاريخ ابن كثير ج ٦ - ص ١٨)

Ḥaḍrat 'Abdullāh bin Mas'ūd رضي الله عنه states: "The first thing I noticed in the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was as follows: I came to the Holy City of Makkah *Al-Mukarrama* with my uncle. He told me the whereabouts of Ḥaḍrat 'Abbās bin Muṭṭalib رضي الله عنه. When we both reached there, we saw Ḥaḍrat 'Abbas bin 'Abdul Muṭṭalib رضي الله عنه sitting near the *Zam-Zam* well. So we both sat there. All of a sudden an extremely handsome man appeared out of the *Al-Safā*. He was of brilliant, white and ruddy complexion; had locks of thick, curly hair that hung down to his ear-lobes; an aquiline, bold nose; brilliant, clean teeth; jet-black, large eyes; a thick beard; a long strip of hair on his chest; strong hands and feet; and was clad in two white garments. He appeared like a full bright moon on a pitch-dark night.

*It has been narrated by Ḥāfiẓ Abu Na'īm Al-Isfahānī.
 -(Tāriḫ Ibn Kathīr V6, P18)*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَوْمَ تَكُونُ أَرْجُلُكَ مِنْ بَنِيكَ وَمَنْ دَعَاكَ لَمْ يَدْعُكَ إِلَّا إِلَى الْفِتْنِ وَالْخَسْفِ وَالْغَمِّ وَالْأَلَمِ

سَيِّدِنَا أَزْهَدُ النَّاسِ

ہمارے سردار لوگوں میں سب سے زیادہ زہد والے دُردو سلامی اللہ آپ کی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā AZHAD-UN-NĀS
(Our Leader
the Most Ascetic of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمام انبیاء
عَلَيْهِمُ السَّلَام سے زیادہ تارکِ الدنیا تھے
کبھی آپ کے لیے دسترخوان نہ بچھیا
گیا جس پر کھانا لگایا گیا ہو اور کبھی
آپ نے گندم کی روٹی سیر ہو کر توتا
تین دن تک نہ کھائی اور آپ تو
اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا کرتے
تھے اور آپ کا تمام لباس اُون کا
ہوتا تھا اور آپ کا بستر کجری کی
کھال اور آپ کا تکیہ چرٹے کا تھا،
جس میں کجور کی بھوس بھری تھی

ان محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ازهد الانبياء فما رفعت
مأدبة قط وعلیها
طعام ولا شبع من
خبز بر ثلاث لیل
متوالیات وکان یربط
الجبر علی بطنه لباسه
الصوف و فراسه
اهاب شاة و وسادته
من ادم حشو هالیف
یا فی علیہ الشهران

آپ پر ایک ماہ، کبھی دو بلکہ تین
 ماہ بھی ایسے آتے کہ آپ کے گھر
 چولہے کے نیچے آگ نہ جلائی جاتی تھی
 کہ چراغ بھی نہ روشن کیا جاتا اور آپ
 کا ایسی حالت میں وصال ہوا کہ
 آپ کی زرع بہن رکھی گئی تھی اور
 آپ ﷺ نے اپنے پیچھے
 سونا چھوڑا اور نہ چاندی۔

والثلاثة لا يوقد
 في بيته نار المصباح
 توفي ودرعه مرهونة
 لم يترك صفراء ولا
 بيضاء -

(دلائل النبوة لابی نعیم الاصفهانی
 ج ۳ - ۲۲۶)

The Almighty Allāh's Prophet ﷺ was the most ascetic of all the Prophets of Allāh the Almighty (peace be upon them all).

He never had a table-cloth laid out for him full of food. He would eat only a little bread for three successive nights. He would tie stones to his belly. He wore coarse clothes made of wool. His bed was made of a sheep-skin. His pillow was made of leather filled with palm leaves.

No fire was lit in his house for one, two, and sometimes three consecutive months. It often happened that there was no light in his house for days. He died in a state when his armour was still pawned. He left behind neither gold nor silver.

-(Dalā'il Al-Nubuwwah by Abu Na'im Al-Isfahāni V3, P226)

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور ﷺ
 کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے
 تھے۔

عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
 لَا يَدْخُرُ شَيْئًا لَغَدٍ -
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۵۰)

Hadrat Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ states that the Holy Prophet ﷺ never stored anything for the following day.

-(Jami' Al-Tirmidhi V2, P59)

حضرت موسیٰ اپنے باپ حضرت
 علیؑ سے روایت کرتے
 ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن العاص
 ؓ فاتح مصر سے سنا، فرماتے
 تھے تمہارے طور طریقہ میں اور حضور اکرم
 ﷺ کے طور پر لیت میں
 کتنا بعُد ہے۔ آپ تو تم
 لوگوں سے زاہد تھے اور تم تمام
 لوگوں سے زیادہ دنیا کی رغبت
 کرنے والے ہو۔

عن موسیٰ یعنی
 ابن علیؑ عن ابيه
 قال سمعت عمرو بن
 العاصؓ يقول ما
 ابعُد هديكم من هدى
 نبيكم ﷺ اما هو
 فكان ازهد الناس في
 الدنيا وانتم ارغب
 الناس فيها.
 (مسند امام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۲۰۳)

Ḥaḍrat Mūsā Ibn 'Alīؑ relates from his father
 'Alīؑ who heard 'Amr bin Al-'Aasؓ (the
 conqueror of Egypt) say: "What a great difference there
 is between your lifestyle and that of the Almighty
 Allāh's Prophet ﷺ! He was the renouncer of
 worldly comforts and you hanker after them the most."
 -(Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V4 P203)



ہوا مستقیم رہیے۔“

(سورۃ ہود ۱۱۲)

Reference to the *Holy Qur'an*:

Therefore stand firm (in the straight Path) as thou art commanded

-(Hud 11:112)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے عمل نجات نہ دیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، نہ میرے عمل نجات دیں گے مگر یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور فرمایا استقامت سے عمل کرو اور اللہ سے قرب حاصل کرو اور صبح و شام اور پچھلی رات میں عبادت کرو اور استقامت سے عمل کرنا تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احدًا منکم عملہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قال ولا انا الا ان یتعمد فی اللہ برحمة سدوا و قاربوا و اغدوا و رجا و شیء من الدلجۃ و القصد القصد تبلغوا (صحیح البخاری ج ۲- ص ۹۵۷)

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ has narrated the Almighty Allāh's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم as saying: "Your deeds (alone) will not save any of you from Hell-Fire."

They (the companions) said: "And not even yours, O Messenger of Allāh the Almighty صلی اللہ علیہ وسلم?"

He صلی اللہ علیہ وسلم replied: "No, even I will not be saved until and unless Allāh the Almighty bestows His Mercy on me. Therefore, be steadfast in doing good deeds; draw close

to Allāh the Almighty; worship Allāh the Almighty in the forenoon and during part of the night; and persevere, in order to attain your goal (Paradise)."

-(Saḥīḥ Al-Bukhāri V2, P957)

حضرت یعقوب بن عتبہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا بیان ہے کہ ابوطالب
 نے کہا اے میرے بھتیجے! تیری
 قوم میرے پاس آئی ہے۔ وہ ایسی
 ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے
 اسے کہا تھا وہ کھدیا اور کہا مجھ پر اور
 اپنے نفس پر رحم کھا اور مجھے ایسے کام
 پر مجبور نہ کر جس کی طاقت مجھ میں نہیں
 رومی کا بیان ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ نے خیال فرمایا کہ چپ
 مجبور ہو گیا ہے اور انہوں نے نظرہ
 محسوس کیا۔ ہو سکتا ہے کہ چچا مجھے
 رُسوا کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے
 کفار کے سپرد ہی کر دیں اور میری
 تائید کرنے سے کمزور ثابت ہوتے
 ہیں تو آپ نے فرمایا چچا جان!
 اللہ کی قسم اگر یہ کفار کہہ سوج کو میرے
 دائیں ہاتھ میں لے آئیں اور چاند کو
 میرے بائیں ہاتھ میں تھام دیں کہ میں
 اس دین کے پیغام کو چھوڑ دوں تو

عن يعقوب بن
 عتبة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
 ابوطالب يا ابن اخي
 ان قومك قد
 جاءوني فقالوا كذا
 وكذا الذي قالوا
 له فابق علي وعلى
 نفسك ولا تحملني
 من الامر ما لا اطيق
 قال فظن رسول الله
 ﷺ انهم قد
 بدالعه فيه بدؤوا
 انه خاذله و مسلمه
 و انه قد ضعف عن
 نصرتهم و القيام معه
 قال فقال له
 رسول الله ﷺ يا عم
 والله لو وضعوا الشمس
 في يميني و القمر في
 يساري على ان

یہ ناممکن ہے۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ
 غالب کرے گا یا میں اس کو شمش
 میں ختم ہو جاؤں گا لیکن یہ پیغام الہی
 میں نہ چھوڑوں گا۔

اترك هذا الامر
 حتى يظهره الله او
 اهلك فيه ما تركته
 (رواه ابن اسحاق في المغازي)
 (تاریخ ابن کثیر ج ۳ - ص ۴۸)

Hadrat Ya'qūb bin 'Utba رضي الله عنه states that Hadrat Abu Tālib said to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ: "My dear nephew, some people from your Tribe have spoken ill of you to me."

Then he aded: "So, take mercy on yourself and on myself, and please do not make me do what I am not capable of doing."

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ viewed that his uncle had become helpless and that he felt danger for himself. He thought that his resolve might weaken, and he would surrender him to the disbelievers. Indeed, he might even feel unable to support and to keep him. So the Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied: "My dear uncle! By Allāh the Almighty, even if the disbelievers of Makkah *Al-Mukarrama* would place the Sun on my right hand and the Moon on my left in order to persuade me to give up my mission, it is impossible. Allāh the Almighty will spread this *Dīn* (Islām) throughout the World or I perish for its cause. But I will never ever abandon this Divine Message (Islam).

-(Tārīkh Ibn Kathīr V3, P48)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 روایت ہے کہ میرے لیے فایز
 حضور اقدس ﷺ نے کیوں دعا
 مانگ "اے اللہ! مجھے ہدایت
 دے اور مجھے سیدھا رکھ اور ہدایت

عن علی کرم اللہ وجہہ
 قال قال لی رسول اللہ
 ﷺ قل اللهم
 اهدنی وسددنی واذکر
 بالهدایة ہدایة الطریق

و اذكر بالسداد تسديك
السهم -
(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۲۴)

سے سیدھے رستے پر چلنا مراد لے
اور سیدھا رہنے سے تیر کی مانند
سیدھا رہنا سمجھ (جس میں ذرا کجی
نہ ہو)۔

Hadrat 'Ali رضی اللہ عنہ states that the Almighty Allah's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم told him to say: "O Allāh the Almighty, guide me and keep me straight and firm. By guidance here refer to guidance to the straight path, and from straight infer to be as straight as an arrow (having no bend or curve).

-(Sūnan Abu Dā'wūd V2, P224)



لولا التّشهُد لم
 تسمع له لا لا
 (نسيم الرّياض ص ۳۵)

یعنی لا الہ الا اللہ۔ اگر
 تشہد نہ ہوتا تو کبھی آپ سے لا لا
 نہ سنا جاتا۔

Ḥaḍrat Ḥassan bin Thābit رضي الله عنه composed the following verse in praise of the Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم:

He صلی اللہ علیہ وسلم never said 'No'
 Except in the *Shahāda* (there is no god but Allāh)
 If it were not for the "*Shahada*"
 One would have never heard the word 'No' from him.
 -(*Nasīm Al-Riyāḍ V2, P35*)

عن النّسّ قال کان
 رسول اللّٰه صلی اللہ علیہ وسلم سخیّ النّاس
 (رواه طبرانی في الاوسط: المغنی للعراقی ص ۳۵۴)

حضرت انس رضي الله عنه سے روا
 ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام
 لوگوں سے سخی تھے۔

Ḥaḍrat Anas رضي الله عنه is reported to have said: "The Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم was the most generous of all people."
 -(*Al-Mughni by Al-'Irāqi V2, P354*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَكَهُوَ الْإِنْبَاءُ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
 وَرَبِّكَ وَعَلَىٰ عَائِلَتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ
 وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ

سَيِّدِنَا أَبُو هَسَنٍ

ہمارے سردار اچھا نمونہ درود سلامیجبالہ آپ

Sayyidunā
 USWATUN-HASANAH صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the
 Excellent Exemplar صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”تم لوگوں کیلئے یعنی ایسے شخص کیلئے
 جو اللہ سے اور رزق آخرت سے ڈرتا ہو اور
 کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ایک عمدہ نمونہ
 موجود ہے۔“

اشارہ إلى قوله:
 ” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا“
 (سورة الاحزاب 21)

Reference to the Holy Qur‘ān:

Ye have indeed
 In the Apostle of Allāh the Almighty
 A beautiful pattern (of conduct)
 For any one whose hope is

رَبَّنَا نَقْبَلُ مَعَاذَكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

In Allāh the Almighty and the Final day,
 And who engages much
 In the praise of Allāh the Almighty.

-(Al-Ahzāb 33:21)

حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مناماتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں جا رہا تھا اچانک ایک آدمی نے آواز دی کہ اپنی تمہد کو اوپر اٹھا کیونکہ کپڑا دیر پارہتا ہے اور پروردگار کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور اقدس ﷺ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ خوبصورت چادر ہے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میں نمونہ نہیں ہوں پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا تمہد اسی پنڈلی تک تھا۔

عن عبیدة بن خالد
 رَوَى اللَّهُ بِكُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَمَثَى
 بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَنَسَانِ
 يَقُولُ أَرْفَعُ أَزَارَكَ فَإِنْدَ
 ابْتَعَى لَثُوبَكَ وَانْفَعَى
 رَبِّكَ قَالَ فَالْقَنْتُ فَإِذَا
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّمَا هِيَ
 بَرْدَةٌ مَلْحَاءُ فَقَالَ أَمَّا لَكَ
 فِي أَسْوَةِ فَنظُرْتُ
 فَإِذَا أَزَارُهُ إِلَى نِصْفِ
 سَاقِهِ -

الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦ ص ٤٣

Ḥadrat 'Ubaida bin Khālid رضی اللہ عنہ states: "Once I was walking in Madina Al-Munawwara when someone spoke: 'Pull your Azār (lower garment) up; it will last longer, and will be purer in the sight of Allāh the Almighty.'

"When I turned round, I saw it was the Almighty Allāh's Prophet ﷺ. I said: 'O Messenger of Allāh the Almighty ﷺ! But it is only a sultry garment.'

"The Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied: 'Am I not an example to you?'

"When I saw the Azār (lower garment) of the Almighty

Allāh's Apostle ﷺ, it was well pulled up to (his) calves."

-(Ṭabaqāt ul-Kubrā V6, P44)

حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی
بیوی کو طلاق دے دی پھر مدینہ منورہ
کی طرف کوچ کیا تاکہ وہاں جو ان کی
جاندا دتھی اس کو بیچ کر ہتھیار اور گھوڑے
خریدیں پھر رومیوں سے جہاد کرتے
کرتے شہید ہو جائیں۔ ان کی ملاقات
اپنے قبیلہ کے چند آدمیوں سے ہوئی
جنہوں نے بتایا کہ ان کی قوم میں
سے چھ افراد نے حضور اکرم ﷺ
کے زمانہ میں ہی ارادہ کیا تھا تو اس
پر آپ نے فرمایا کیا تمہارے واسطے
میں اچھا نمونہ نہیں ہوں اور ان کو
اس سے روک دیا تھا۔ اس پر حضرت
سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے ان کو
اپنی طلاق کے رجوع پر گواہ مقرر
کیا۔

عن سعد بن هشام
رضی اللہ عنہما انه طلق امرأته
ثم ارتحل الى المدينة
ليبيع عقارا له بها ويحصله
في السلاح والكراع ثم
يجاهد الروم حتى يموت
فلقى رهطا من قومه
فعد ثوه ان رهطا من قومه
سنة ارادوا ذلك على
عهد رسول الله ﷺ
فقال اليس لكم في اسوة
حسنة فنهاهم عن ذلك
فاشهدهم على رجعتها. (بخاری)
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۵۳)

Ḥadhrat Sa'd bin Hishām رضی اللہ عنہ states that he divorced his wife and travelled to Madina Al-Munawwara in order to dispose of his property there, and, from its proceeds, to purchase weapons and horses for a Jihād against the Romans. Thus he would die a martyr while fighting in the cause of Allāh the Almighty. He met a

few of the members of his tribe. They told him that six men from their tribe had expressed the same intentions during the life-time of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, but the Almighty Allāh's Apostle ﷺ had told them: "Am I not a worthy example to you?" The Almighty Allāh's Apostle ﷺ had forbidden them to follow their intentions.

At this Sa'd bin Hishām رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ reconciled with his divorced wife and took his tribesmen as witness.

-(Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V6, P53)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لَوَجْهِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ وَمَوْلَانَا
 وَوَلَدِهِ وَعَتَرَتِهِ وَجَمِيعِ تَلَمَذِهِ وَتَلَمَذَتِهِ بِكَ وَبِمَدِينَةِ مَكَّةَ الَّتِي لَمْ يَلِدْ إِلَّا الْكَرِيمَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ إِلَّا الْكَرِيمَ وَوَلَدَهُ الْوَالِدَ الْكَرِيمَ

سَيِّدِنَا أَشْجَعُ الْبَشَرِ

ہمارے سردار سب سے زیادہ بہادر دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā ASHJA‘-UN-NĀS
 (Our Leader the Bravest of All Men صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور
 سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر
 تھے۔ ایک رات مدینہ کے گھبرائے
 جد سے آواز آ رہی تھی صحابہ کرام اس طرف
 چلے، راستہ میں آپ انہیں واپس
 آتے ہوئے ملے اور آپ اس آواز
 کی طرف سب سے پہلے تشریف لے
 گئے تھے اور آپ حضرت ابوطالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 کے گھوڑے پر سوار تھے جو نسی پٹیہ تھا

عن انس بن مالك
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ
 وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ
 وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ
 وَلَقَدْ فَنَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
 ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ
 نَاسٌ قَبْلَ الصَّوْتِ فَلَقَاهُمْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمُ إِلَى
 الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ

لابي طلحة عری
فی عنقه السیف وهو
یقول لم تراعوا لم
تراعوا قال وجدناه بحرًا
او انه لبحر قال و كان
فرسًا یبطاً -

(الصیح لمسلم ج ۲ - ۲۵۲)

اور آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی
اور آپ فرماتے تھے کسی قسم کا خوف
نہیں کسی قسم کا خوف نہیں اور فرماتے
تھے ہم نے اس گھوڑے کو تیزی میں
سمندر کی طرح پایا یا یہ تو سمندر ہے
اور راوی کہتے ہیں کہ پہلے وہ گھوڑا
بہت سست رفتار تھا۔

Hadrat Anas bin Mālik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ has reported: "The Almighty Allāh's Messenger صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the most handsome, the most generous, and the bravest among people. One night the people of the Holy City of Madina Al-Munawwara were disturbed. The companions walked in the direction of voices coming from the disturbance. On the way they met the Messenger of Allāh the Almighty صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ returning from the source of the noise. He had reached it ahead of them all, riding Abu Ṭalḥa's (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) horse, without a saddle on its back. He had a sword slung round his neck and he was saying: "There is nothing to be afraid of. There is nothing to be afraid of." He also said: "I found this horse, swift as a torrent of water", (indicating its swift-footedness). The narrator said that this horse had been slow before that time."

-(Ṣaḥīḥ Muslim V2, P252)

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قال ما رأيت أحدا
أجعد ولا أجود ولا
أشجع ولا أضوا وأضوا
من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(سنن الدارمی ج ۱ - ص ۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے نہ تو کسی کو اعلیٰ دیکھا اور نہ ہی کوئی
سخی دیکھا اور نہ ہی کوئی بہادر دیکھا اور
نہ ہی کوئی خوبصورت حسین دیکھا۔

Hadrat 'Abdullāh bin 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا reported that he had never seen anyone more noble, generous, brave, handsome and elegant than the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-(Sunan Al-Dārimī VI, P33)

حضور اقدس صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے کہ مشرکین کے مقابلے میں نہ بھاگیں اگرچہ آپ اچھے ہی رہ جائیں۔ اللہ کی فرمانا "لا تکلف إلا نفسك" آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر، تمام لوگوں سے زیادہ صاف اور تمام سے قوی تھے۔ آپ میدان جنگ میں کبھی نہ بھاگے اگرچہ آپ کے ساتھی آپ کو اکیلا چھوڑ گئے ہوں۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَأْمُورًا أَنْ لَا يَفِرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا وَاجَهُوهُ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ لَا تَكْلِفُ إِلَّا نَفْسَكَ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْبَعِ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَاجْلَاهُمْ، مَا فَرَّقَ قَطُّ مِنْ مِصَافٍ وَلَوْ تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ -

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ - ص ۵۹)

The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was ordered by Allāh the Almighty, not to flee from the polytheists in the battlefield even when left alone. The Almighty Allāh's commandment: "Do not burden (anyone) except yourself", was meant for him. The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the bravest, most patient and valiant of all people. He never deserted or fled from a battle, even if his Companions left him on his own.

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P59)

قال العلامة الخفاجي
في شرحه على الشفاء :
" ان العذراء في خدرها
اشد حياء لكونه مظنة
الاجتماع بها."
(نسيم الرياض ج ٢ ص ٥)

علامہ خفاجی شرح شفاء میں فرماتے
ہیں، کنواری اپنے پردہ میں سخت
حیا والی ہوتی ہے، اس خیال سے
کہ کوئی غیر آدمی وہاں پردہ میں نہیں
جاسکتا۔

'Allāma Al-Khafājī رحمۃ اللہ علیہ writes in his commentary on 'Al-Shifā': "A virgin in purdah (veil) is most protected in modesty because nobody can approach her there in her seclusion."

-(Nasīm Al-Riyāḍ V2, P57)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَىٰ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَوَجْهِهِ وَمَنْ ذَكَرَهُ
وَعَدَّ وَعَلَّقَهُ بِرَحْمَتِكَ وَيَسِّرْ لِي سُبُلَ الْجَنَّةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

أَشَدُّ النَّاسِ بَأْسًا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار جنگ میں سب سے زیادہ جری دُرُودِ سَلَامِ حَبِیبِ اللہِ آپ کے

Sayyidunā
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ASHADDUN-NĀSI-BA'SAN
 (Our Leader the Most Overpowering
 of All People صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تم نے میں بدر کے دن دیکھا کہ ہم حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ پناہ حاصل کر رہے تھے۔ ہم میں سے جو دشمن کے قریب تھا وہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس آ رہے تھے اور آپ اس دن سب سے زیادہ جری تھے۔

عن علیؑ قال
 لقد رأيتنا يوم بدر
 ونحن نلوذ برسول الله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أقربنا
 من العدو و كان
 من أشد الناس يومئذ
 بأساً - (رواه احمد
 مجمع الزوائد ج ۱۲ - تاریخ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۶۹)

Ḥaḍrat 'Aliؑ has reported: "During the Battle of Badr we found ourselves taking shelter behind the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. He was the nearest

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(among us) to the enemy, and yet he was the most formidable fighter of all on the day."

-(Narrated by Ahmad, Majma' Al-Zawā'id V2, P12; Tārīkh Ibn Kathīr V3, P279)

حضرت علیؓ سے روایت ہے:
 انہیں پوچھا گیا کہ بدر دن حضور اقدس
 ﷺ کا کیا مقام تھا؟ انہوں نے
 جواب دیا کہ ہم میں سے نعمت جگمگواتھا
 جس کا گھٹنا حضور اقدس
 ﷺ کے گھٹنے کے برابر تھا۔

عن علیؓ انما
 سئل عن موقف النبي
 ﷺ يوم بدر فقال
 كان اشدنا يوم بدر
 من حاذي بركبته رسول الله
 ﷺ (رواه الطبراني في الاوسط
 مجمع الزوائد ج 9 ص 12)

Hadrat 'Aliؓ has reported that he was asked about the position of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ during the Battle of Badr, to which he replied: "The fiercest fighter among us (on the day) was he whose knee was parallel to that of the Almighty Allāh's Apostle's (ﷺ)."

-(It has been related by Al-Ṭabarānī in Al-Awsaṭ, Majma' Al-Zawā'id V9, P12)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَحْمَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَعِزَّةِ مَلَكُوتِكَ
 وَمَعُونَتِكَ وَمَعُونَةِ مَلَائِكَتِكَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ

سَيِّدِنَا أَشَدُّ الْحَيَاءِ

ہمارے سردار تمام مخلوق میں سب سے حیا کرنے والے دروڑ اسلام بھیجے اللہ پی

Sayyidunā
 ASHAD-UN-NĀSI ḤAYĀ'AN ﷺ
 (Our Leader the
 Most Modest of All People ﷺ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ” یہ باتیں ہمارے حبیب کو تکلیف
 دیتی ہیں۔ وہ تم سے حیا کرتے ہیں

اشارہ الی قولہ:
 ” إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
 يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ“
 (سورۃ الاحزاب ۵۳)

Reference to the Holy Qur'an:

.... Such (behaviour) annoys
 The Prophet ﷺ; he is ashamed
 To dismiss you, but Allāh is not ashamed
 (To tell you) the truth.
 -(Al-Aḥzāb 33:53)

اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ
 و کان اشد

حیا والے تھے، کبھی آپ نے کسی کی نظر
 نگاہ نہ کیا کر نہیں دیکھا۔

الناس حياءً لا يثبت
 بصره في وجه احد -
 (احياء الملوم ج ۲ ص ۳۵۵)

The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the most
 modest of all people, to the extent that he never stared
 at anybody's face.
 -(Ihyā' Al-'Ulūm V2, P355)

حضرت عبداللہ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز
 جو حضور اقدس ﷺ کو پیغمبری
 ملنے کے بعد دکھائی دی وہ یہ تھی کہ
 آپ کو کہا گیا کہ پڑھ کریں پھر سن
 کے بعد آپ کی شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی۔

قال ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 فكان اول شيء رأى
 النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من النبوة
 ان قيل له استر فما
 رؤيت عورتما من يومئذ
 (دلائل النبوة ج ۱ ص ۱)

Ḥadrat 'Abdullāh Ibn 'Abbās رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا has reported:
 "The first thing that the Almighty Allāh's Apostle
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was shown in his prophethood was the
 commandment from Allāh the Almighty to be modest.
 From that day onwards no part of his body (liable to be
 covered i.e. 'Awrah) was ever to be seen by anyone in
 any way."
 -(Dalā'il Al-Nubuwwah V1, P60)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُهُ
اللَّهُ مَعْلَمًا وَسَلَّمَ دَارَهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَزَّزَهُ بِمَدَدِ مَنْ مَلَأَ مَنْ
رَبِّهِ وَمَخْلُوقِهِ وَجَعَلَ نَفْسَهُ وَبَشَرَتَهُ وَمَا دَعَاكَ اسْتَعْمَلَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

سَيِّدِنَا أَشْرَفُ النَّاسِ

ہمارے سردار تمام لوگوں سے اشرف درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā ASHRAF-UN-NĀS
(Our Leader
the Most Honoured of People صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں خاندان کے لحاظ سے تمام لوگوں میں اشرف ہوں اور فخر نہیں اور عزت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے عزت والا ہوں اور فخر نہیں۔ لے لوگو! جو ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے اور جو ہماری عزت کریگا ہم اس کی عزت کریں گے اور جو ہم سے مکاتبت کروائے گا ہم اس سے مکاتبت

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اشرف الناس حسبا ولا فخر واكرم الناس قدرا ولا فخر ايها الناس من اتانا اتيناه ومن اكرما اكرمناه ومن كاتبنا كاتبناه ومن شيع موتانا شيعنا وموتاه ومن قام بحقتنا فناما بحفته ايها الناس

کریں گے اور جو ہماری میتوں کی میت
 چلے گا ہم اس کی میتوں کے ساتھ جائیں
 گے، جو ہمارا حق ادا کرے گا ہم اس کا
 حق ادا کریں گے۔ اے لوگو! لوگوں
 کے پاس ان کے احسان کے لحاظ
 سے بیٹھو اور لوگوں سے بولتو انکی
 دین داری کے لحاظ سے اور لوگوں کی
 عزت کرو ان کے مرتبہ کے لحاظ سے
 اور لوگوں کی مدارت کرو اپنی انانی
 کے لحاظ سے۔

جالسوا الناس علی
 قدر احسانهم وخالطوا
 الناس علی قدر ادیانهم
 وانزلوا الناس علی
 قدر مرواھم وداروا
 الناس بقولکم۔

(رواہ الدیلمی)

(منتخب کنز العمال علی ما مشی احمد ج ۳۵/۶ ص ۳۵)

Hadrat Jābir bin 'Abdullah رضی اللہ عنہ has reported the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying: "I am the most superior of all people in genealogy and yet I am not proud of it. I am the most honoured of all and yet I am not proud of it. O people! Whoever approaches us, we will approach him. Whoever pays respect to us, we will give equal respect to him. Whoever makes an agreement with us regarding bondage ransom, we shall (happily) make such an agreement. Whoever escorts our dead, we will escort his dead. Whoever stands up for our rights, we will stand up for his.

O people! Meet with people according to their good dealings. Socialise with them according to their religiosity. Honour people according to their degree of humanity and host them in the light of your wisdom."

(It has been narrated by Daylami, Muṭaḥab Kanz Al-'Ummāl on the Margin of (Musnad) Aḥmad V4, P305-6)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت
 قال رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے
 مجھے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و
 مغرب کو الٹ پلٹ کیا ہے لیکن
 حضرت محمد ﷺ سے کسی
 انسان کو افضل نہ پایا اور میں نے زمین
 کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ
 کیا لیکن بنو ہاشم جیسا خاندان نہ پایا۔

قال لی جبریل قلبت
 الارض من مشارقها ومغاربها
 فلم اجد رجلا افضل
 من محمد وقلبت الارض
 مشارقها ومغاربها فلم اجد
 بنی اب افضل من بنی
 ہاشم۔

(رواہ البیہقی فی دلائل النبوة تاریخ ابن کثیر
 ج ۲ - ص ۲۵۷)

Ḥadrat 'Ā'isha رضی اللہ عنہا has reported the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying: "Once the Archangel Gabriel علیہ السلام stated to me: 'I have turned the earth inside out from East to West and have not found a man more honourable than the Holy Prophet Muḥammad ﷺ. I have turned the earth inside out from East to West and have not found any lineage more exalted than that of Banu Hāshim.'"

-(Narrated by Baihaqi in Dalā'il Al-Nubuwwah; Tārīkh Ibn Kathīr V2, P257)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَيِّرَ الْإِنْسَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَيِّرَ الْإِنْسَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ

سَيِّدُ الْاَشْنَابِ

ہمارے سردار براق دندانِ دروڈ و سلامیج اللہ آپ

Sayyidunā AL-ASHNABU ﷺ
 (Our Leader
 With Sparkling White Teeth ﷺ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے دندان مبارک کشادہ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دانتوں سے نور کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے تھے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله ﷺ افلج الثنيتين واذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه .

(سنن الدارمی ج ۱- ص ۳۳ شمارہ ۵۹)

Hadrat Ibn 'Abbās رضی اللہ عنہما has reported: "The Almighty Allāh's Apostle ﷺ had a gap between his two incisors such that when he ﷺ spoke rays of light could be seen sparkling forth from them."

-(Sunan Al-Dārimī V1, P33, No. 59)

عن الحسن بن علی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ماموں (ہند) سے روایت کرتے ہیں
کہ حضورِ اقدس ﷺ
دانٹوں والے تھے۔

رسول اللہ ﷺ عن خاله قال كان
اشنب مفلج الاسنان.
(تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۱۶)

Ḥadrat Ḥasan bin 'Ali رضي الله عنه has reported his uncle
(Ḥind رضي الله عنه) as saying: "The Almighty Allāh's Apostle
ﷺ had the most sparkling white teeth, which
were well spaced-out."

-(Tārīkh Ibn Kathīr V6, P17)



Reference to the *Holy Qur'an*:

So persevere in patience;
 For the promise of Allāh is true.

-(Ghāfir 40:77)

حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ میں حضور اقدس
 ﷺ کی خدمت اقدس میں
 حاضر ہوا اور آپ ایک چادر سے
 تکیہ لگائے خانہ کعبہ کے سایہ میں
 تشریف فرما تھے اور ہمیں مشرکوں
 سے سخت تکلیف پہنچی تھی تو میں نے
 عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے
 دعا کیوں نہیں کرتے؟ پس آپ
 سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ
 مبارک سُرخ ہو گیا تھا۔ آپ نے
 فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے کسی کی
 ہڈیوں پر گوشت سے نیچے یا پٹھے
 سے نیچے لوسے کی لنگھیاں کی جاتی
 تھیں اور یہ بات اسے اس کے
 دین سے نہ پھیرتی تھی اور آ رہے اسکے
 سر پر رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے کمرے
 کمرے جاتے تھے لیکن یہ عمل بھی
 اس کو دین سے نہ پھیر سکتا تھا اور حضور

عن خباب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 يقول آتيت النبي ﷺ
 وهو متوسد ببردٍ
 وهو في ظل الكعبة
 وقد لقينا من المشركين
 شدة فقلت لا تدعو الله
 فقد وهو محمر
 وجهه فقال لقد كان
 من قبلكم ليمشط بمشاط
 الحديد مادون عظامه
 من لحمٍ أو عصب
 ما يصرفه ذلك عن
 دينه ويوضع المنشار
 على مفرق رأسه فيشق
 باثنتين ما يصرفه ذلك
 عن دينه وليتمن الله
 هذا الأمر حتى يسير
 الراكب من صنعاء إلى
 حضرموت ما يخاف

اللہ تعالیٰ اس مین کو کامل کئے گا حتیٰ
 کہ سواضعنا سے حضرت موت تک
 جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی
 سے خوف نہ ہوگا۔ ایک اڈی نے
 جس کا نام بیان ہے اتنی بات زیادہ
 روایت کی ہے کہ "پہنی بکریوں پر
 اسے بھیڑیے کا خوف نہ ہوگا"

الا للہ نراد بیان
 و الذئب علی غنمہ -
 (صحیح البخاری ج ۱ - ص ۵۴۳)

Ḥadrat Khabbāb رضی اللہ عنہ has narrated: "I came to the Holy Prophet of Allāh the Almighty ﷺ while he sat reclining on his outer garment (*Burda*), folded into a cushion, in the shade of the Holy Ka'ba. We had suffered greatly at the hands of pagans (in those days). I said to the Holy Prophet of Allāh the Almighty ﷺ: 'Why do you not invoke Allāh the Almighty for help?' At this he sat up, red-faced, and said: 'Believers before you were tortured by having metal combs pulled fiercely against their flesh or nerves. Yet this would not make them relinquish their religion. A saw would be placed on (the parting of) his head, splitting it in two, yet even this treatment could not make them abandon their religion.'

Allāh the Almighty will surely complete this Religion of Islam to such an extent that a traveller from San'a' to Ḥadramaut will fear nobody except Allāh the Almighty."

Bayān رضی اللہ عنہ added: "He would not be fearful of a wolf harming his sheep."

-(*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī VI, P543*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْذَ الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ إِذْ يَعْمَلُ خَيْرًا لِيُجْزَاهُ أَجْرًا كَثِيرًا • وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَوَّاهُمْ قَدْرًا وَأَلْهَمَهُمُ الْإِيمَانَ وَفَصَّلَ بَيْنَهُمْ مَا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ وَهِيَ إِذْ خَلَقْتُمْ ذَكَرْتُمْ لَكُمْ ذِكْرًا وَمَنْ قَدْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَافِقٌ لِمَنْ يَكْفُرْ

سَيِّدُكَ الْاَصْدَقُ فِي اللَّهِ

ہمارے سردار اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ سچے درود سلام بھیجنا اللہ سے

Sayyidunā AL-AŞDAQU-FILLĀH ﷺ
 (Our Leader
 the Most Truthful to Allāh ﷺ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ” اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف
 لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق
 کی یہی پرستیزگار ہیں۔“

اشارہ الی قولہ:
 وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
 وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

(سورۃ الزمر ۳۳)

Reference to the Holy Qur'an:

And he who brings the Truth
 And he who confirms
 (and supports) it - such are
 The men who do right.

-(Al-Zumar 39:33)

معنی یہ ہیں کہ آپ صدق پر

ای الاثبت و

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِین ط

سب سے زیادہ ثابت قدم اور قوی تھے
 آپ سے زیادہ نہ تو کوئی حق پر
 ثابت قدم ہے اور نہ ہی حق پر
 زیادہ قوی۔

الاقوى فلا احد
 اثبت ولا اقوى على
 الحق منه .

(شرح مواہب اللدنیہ للزرقانی ج ۳ ص ۱۳۱)

That is, he was the most steadfast and the most powerful of all with regard to the truth. There is no-one more steadfast and powerful regarding the truth than him ﷺ.

-(Sharh Al-Mawāhib Al-Ladunīya by Al-Zarqāni, V3, P121)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ
 ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا کیا تم
 نے اس نبی (ﷺ) پر نبوت
 سے پہلے کبھی جھوٹ کا الزام لگایا
 ہے؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا کہ
 ایسا کبھی نہیں ہوا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
 قال قال هرقل لابي سفيان
 فهل كنتم تتهمونه
 بالكذب قبل ان

يقول ما قال قلت لا
 (الحديث)

(رواه البخاری ج ۱ ص ۵۲۶ - مشکوٰۃ ص ۵۲۶)

Hadrat 'Abdullāh Ibn 'Abbās رضی اللہ عنہما has narrated that the King of Rome, Heraclius, asked Hadrat Abu Sufyān رضی اللہ عنہ (before he embraced Islam): "Did any of you ever accuse the Holy Prophet Muḥammad ﷺ of telling lies before his claim to Prophethood?" Hadrat Abu Sufyān replied: "No!"

-(Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī VI, P4; Mūshkāt P526)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما
 قال لما فتحت خیبر

اهدیت لرسول الله ﷺ
 شاة فيها سمر فقال
 رسول الله ﷺ
 اجمعوا لي من كان
 ههنا من اليهود فجمعوا
 له فقال لهم رسول الله
 ﷺ اني سائلكم
 عن شئ فهل انتم
 صادق عنه قالوا نعم
 يا ابا القاسم فقال
 لهم رسول الله ﷺ
 من ابوكم قالوا
 ابونا فلان ، قال
 رسول الله ﷺ كذبت
 ابوكم فلان قالوا صدقت
 وبرت قال لهم هل
 انتم صادق عن شئ سالتكم
 عنه قالوا نعم يا ابا القاسم
 وان كذبتك عرفت
 كما عرفت في ابينا
 فقال رسول الله ﷺ
 من اهل النار قالوا

وہاں زہر آلود کبری کا تحفہ حضور اقدس
 ﷺ کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا
 جو اس جگہ یہودی ہیں ان کو میرے
 پاس اکٹھا کرو۔ وہ اکٹھے ہو گئے تو
 آپ نے انہیں فرمایا۔ میں تم سے
 کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں
 کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے، تو انہوں
 نے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم آپ
 نے فرمایا اپنے باپ کا نام بتاؤ۔
 انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آپ نے
 فرمایا جھوٹے ہو بلکہ تمہارا باپ فلاں
 ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے
 سچ فرمایا اور بجا فرمایا، پھر آپ نے
 فرمایا بھلا میں تم سے ایک بات
 پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے سچ بتاؤ
 گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابوالقاسم!
 اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ
 ویسے ہی معلوم کر لیں گے جیسے آپ نے
 ہمکے باپ کے متعلق معلوم کر لیا تھا آپ
 نے فرمایا بھلا بتاؤ کہ دوزخ کون ہیں
 تو انہوں نے کہا کہ ہم چند دوزخ
 میں ہیں گے پھر تم ہماری جگہ چلے

نكون فيها سيراً ثم
 تخلفونا فيها فقال لهم
 رسول الله ﷺ لا
 تخلفكم فيها ابداً ثم
 قال لهم هل انتم
 صادقى عن شئ سالتم
 عنه فقالوا نعم يا
 ابا القاسم قال هل جعلتم
 في هذه الشاة سمّاً قالوا
 نعم قال فما حملكم على
 ذلك قالوا اردنا ان كنت
 كاذباً نستريح منك
 و ان كنت نبياً لم
 نضرک .

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۵۱)

جاوگے حضور اقدس ﷺ نے
 انہیں فرمایا ہم تمہارے بعثت ووزخ
 میں کبھی نہ جائیں گے۔ پھر آپ نے
 فرمایا بھلا ایک اور بات پوچھتا
 ہوں کیا تم مجھے سچ بیان کرو گے؟
 انہوں نے کہا کہ ہاں سچ کہیں گے۔
 آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کبھی
 میں زہر ڈالا تھا؟ انہوں نے کہا کہ
 ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں
 نے جواب میں کہا کہ ہمارا ارادہ یہ
 تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم
 آپ سے چھوٹ جائیں گے اور
 اگر آپ نبی ہیں تو زہر آپ کو
 کچھ نقصان نہ دے گا۔

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ has reported that when Khaybar was conquered, the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was presented with some cooked mutton which had been poisoned. He ﷺ asked for all the Jews who were present to be gathered before him. When they gathered together the Almighty Allāh's Apostle ﷺ asked them: "I am going to ask you something; will you tell me the truth?" They said: "Yes, O Abul Qāsim ﷺ."

He ﷺ asked them: "Tell me the name of your forefather." They replied: "It was so and so."

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ said: "You are

lying." Then he told them the name of their forefather.

The Jewish people exclaimed together: "You have told us the truth and have done good!"

Then the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asked them: "If I ask you about another thing, will you tell me the truth?" They replied: "Yes, O Abul Qāsim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! Because if we lied, you will know about it just as you knew about our forefathers."

So the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asked them: "Who will be the people to go to Hell?" They replied: "We will be in Hell for some time, then your people will replace us there." The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asserted: "No! We will never ever replace you there."

Again the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asked them: "If I ask you still another thing, will you speak the truth to me?" They said: "Yes, O Abul Qāsim صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!"

The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ asked them: "Did you add poison to this mutton?" The Jews said: "Yes!" The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ enquired: "What made you do that?" They replied: "Our intention was to find out if you were an imposter, in which case we would (by poisoning) get rid of you; and if on the other hand, you were a true Prophet of Allāh the Almighty, then the poison would not harm you."

-(Musnad Imām Ahmad bin Hanbal V22, P451)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا بِكَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَلَّوْهُ
 وَمَنْ وَعَلَوْهُ وَمَنْ تَعَلَّمَ مِنْ تَعَلُّمِكَ وَمَا أَدْعَاكَ اسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ الرَّحِيمِ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْفَاتِحَةَ وَأَنَّ الْبِرَّ سَعِيدٌ

سَيِّدِنَا أَصْدَقُ نَاسٍ فِي كَلِمَاتِهِ

ہمارے سردار سب لوگوں میں زبان کے سچے درود و سلام بھیجے لا الہ الا انت

Sayyidunā
 AṢDAQ-UN-NĀSI LAḤḤATAN ﷺ
 (Our Leader
 the Most Truthful in Speech ﷺ)

حضرت علی رضی اللہ عنہما جب
 حضور اقدس ﷺ کی صفت
 بیان فرماتے تو کہتے کہ آپ نے
 پست قدم تھے اور نہ درازت بلکہ
 درمیانہ قدم تھے۔ آپ کے
 بال مبارک نہ زیادہ گھونگر والے
 تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ تھوڑے
 گھونگر والے تھے۔ چہرہ نہ تو بالکل
 پُر گوشت موٹا تھا اور نہ بالکل گول،
 سُکڑا ہوا۔ ہاں آپ کے چہرہ میں

عن علی رضی اللہ عنہما کان
 اذا وصف النبی ﷺ
 قال لیس بالطویل
 الممغط ولا بالقصید
 المتردد وکان
 ربتہ من القوم ولم
 یکن بالجعد القطط
 ولا بالسبط کان
 جعدا رجلا ولم یکن
 بالمطہم ولا بالملکثم

وَيَا قَبِيلَ مَنْ أَلْفَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

وكان في الوجه تدوير
 ابيض مشرب ادعج
 العينين اهدب الاشفار
 جليل المشاش والكد
 اجرد ذومسرة شثن
 الكفين والقدمين
 اذا مشى تقلع كانما
 يمشی فی صلب و اذا
 التفت التفت معابین
 كقفيه خاتم النبوة
 وهو خاتم النبیین
 اجود الناس صدرا
 واصدق الناس لهجة
 والينهم عريكة و
 اكرمهم عشرة من
 راه بديهته هابم و
 من خالطه معرفة
 احبه يقول ناعتم
 لم اقبله ولا بعده
 مثله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اجامع الرمذی ج ۲ ص ۲۵۵/۲۵۴

لمبانی کے ساتھ کسی قدر گولائی تھی ناک
 گورائمرغی مائل آنکھیں بالکل سیاہ ،
 پلکوں کے بال لمبے ، جوڑھنٹ بڑے
 موڑھنٹوں کے سرے اور درمیان تھے
 بڑے ، بدن پر بال کم تھے ، سینہ اور
 ناف کے درمیان سیدھی کیمر تھی ۔
 ہتھیلیاں پر گوشت اور دونوں پاؤں
 بھی پر گوشت تھے۔ جب چلتے تو تو
 کے ساتھ چلتے تھے گویا ڈھلوان زمین
 پر چل رہے ہیں جب آپ سچے مڑتے تو
 پوری طرح مڑجاتے ، دونوں موڑھنٹوں کے
 درمیان مہرنبوت تھی اور آخاتم النبیین
 تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل
 تھے سب سے زیادہ زبان کے سچے تھے۔
 مزاج میں سب سے بڑھ کر نرم ، معاشرت
 میں سب سے بڑھ کر جو دو کرم والے ۔ جو
 اچانک آپ کو دیکھتا مڑوبے جاتا اور
 جو آپ کے ساتھ ملا جلا رہتا اور جان
 پہچان پیدا کرتا وہ آپ کا فدائی بن جاتا
 آپ کی صفت بیان کر نیوالا کتاب ہے
 کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ
 کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

When he described the qualities of the Holy Prophet Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hadrat 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ spoke thus: "He was neither too short nor too tall, but of medium height. His hair was neither too curly nor too straight, only partly curly. His face was neither too fleshy and round nor too lean and thin, but oval shaped. His complexion was ruddy white. His eyes were dark and black with long eye lashes. He had strong joints and large, splendid shoulders. He had little hair on his body, only a long strip of hair running between his chest to his navel. The palms of his hands and the soles of his feet showed signs of a powerful grasp. He walked firmly, as if he was descending a slope. When he turned round, he turned whole of his body. He had the Seal of Prophethood between his shoulder blades. He was the final Prophet of Allāh the Almighty, the Seal of Prophets (peace be upon them all).

"He was the most generous and the most truthful in speech among people (*Asdaq-un-Nāsi Lahjatan*). He had the most gentle disposition and was most benevolent in life. Whosoever saw him would be in awe of him from the first glance, on account of his remarkable appearance. Whosoever came closer and knew more about him began to love, him becoming his devotee.

"Whoever describes him (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), has to say:
'I have never seen the like of him (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ),
Neither before nor after him (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).'"

-(*Jāmi' Al-Tirmidhi V2, P204-5*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَقْبَلَهُ اللَّهُ وَكَرِهَهُ الْإِنْسَانُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَلَامٍ وَأَنَّ
وَمَدَّ وَخَلَقَ وَجَنِّ نَفْسِكَ وَبَشَّرْتَنِيكَ وَمَدَّ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

سَيِّدِكَ الْأَطْهَرُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار بہت پاکیزہ دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-AṬHARU صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Pure صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ الی قولہ :
” وَثِيَابِكَ فَطَهَّرُ ”
(سورة المدثر - ۴)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف :
” اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو۔ ”

Reference to the Holy Qur'an:

And thy garments
Keep free from stain!
-(Al-Muddaththir 74:4)

قال مجاهد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (و)
ثيابك فطهر، قال نضك
ليس ثيابه وفي رواية عنه
(و ثيابك فطهر، اى عمك
فاصلح -

حضرت مجاہد نے اس (و ثيابك
فطهر) کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے
پڑا اور انہیں آپ کا نفس مبارک مراد
ہے اور اسی کی تفسیر میں مجاہد سے مروی
ہے یعنی اپنے اعمال کی اصلاح فرمائیے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے
 اس (وشیاب فطہم) کی تفسیر میں فرمایا
 کہ آپ اپنے دل اور نیت کو پاکیزہ کر لیجیے
 اور حضرت محمد بن کعب بن قلی اور حسن بصری
رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ فرمائی
 کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔

وقال سعید بن جبیر
رضی اللہ عنہما (وشیابک فطہم) و
 قلبک و نیتک فطہم وقال
 محمد بن کعب القرظی و المحسن
 البصری رضی اللہ عنہما وخلقک فحسن۔
 (تفسیر ابن کثیر ج ۳ - ص ۳۴۱)

Hadrat Mujahid رضی اللہ عنہ has explained (in his *Tafsir*) the Quranic Verse: 'And thy garments keep free from stain!' He interprets it as applying to the Self (*Nafs*), i.e. to the person not to the clothing. Such that, to keep garments free from stain means to keep deeds free from error.

Hadrat Sa'id bin Jubair رضی اللہ عنہ has explained this Verse to mean that the Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم was commanded to purify his heart and intention.

Hadrat Muḥammad bin Ka'b Al-Qurazi and Hadrat Ḥasan Al-Baṣri رضی اللہ عنہما have explained the Verse as meaning: 'Make better your character'.

-(*Tafsir Ibn Kathir V4, P441*)

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
 ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
 کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا،
 آپ کے ساتھ کوئی آلائش نہ تھی
 اور آپ صند شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کی
 ناف مبارک ولادت کے وقت کئی نمونی تھی

روی فی بعض الروایات
 عن امہ آمنہ انها قالت
 ولدته صلی اللہ علیہ وسلم نظیفاً
 ما بہ قدر و کان
 التبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ولد
 محتوناً مقطوع السرة -
 (اسم الرياض ج ۱ ص ۳۶۳)

According to some traditions Hadrat Amina رضی اللہ عنہا,

the mother of the Almighty Allāh's Apostle (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), is reported to have said: "When I gave birth to the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, I found him to be an immaculate baby. He was spotless and born already circumcised. His umbilical cord had already been cut."
-(Nasānu Al-Riyāḍ V1, P363)

حضرت مالک بن صعصعہ
سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ
نے لوگوں کو اس شب کی کیفیت بیان
کی جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی کہ
اس حال میں کہ میں حطیم میں (اور کبھی آپ
فرماتے تھے کہ حجر ہیں) لیٹا ہوا تھا یکایک
میرے پاس ایک سویلا آیا اور اس نے
(میرے سینہ) یہاں سے لیکر یہاں تک
چاک کر ڈالا (رومی کہتے ہیں) میں نے جاڑو
سے پوچھا اور وہ میرے پہلو میں لیٹے ہوئے
تھے کہ یہاں سے یہاں تک کی طلب
ہے انہوں نے کہا طقوم سے کر زیر ہنہ
تک بھڑپس نے میرے اول نکالا، بعد اسکے
میرے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا
جو ایمان سے بھرا ہوا تھا پھر میرے اول
دھویا گیا، پھر وہ (ایمان سے) بھر گیا
پھر اسے اپنی جگہ واپس رکھ دیا گیا

عن مالك بن صعصعة
رَوَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اسْرِي بِهِ
بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرَبَّمَا
قَالَ فِي الْمَجْرِ مَضْطَجِعًا
إِذَا أَنَا فِي أَتٍ فَتَدَّ قَالَ
وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ فَشَقَّ مَا
بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ
فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى
جَنْبِي مَا يَعْْنِي بِهِ قَالَ
مَنْ نَفْرَةَ نَحْرَهُ إِلَى شَعْرَتِهِ
وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ مِنْ قَصَبِهِ
إِلَى شَعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي
ثُمَّ أَتَيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ
ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا
فَعَسَلَ قَلْبِي ثُمَّ حَتَّى ثَمَّ
اعيد - (الحديث)

(صحيح البخاري ج ١ ص ٥٢٨)

Ḥaḍrat Mālik bin Ṣa'sa'a رضي الله عنه has related the Almighty Allāh's Messenger ﷺ as describing to the people his night of Ascension to the Heavens (*Al-Mi'rā*) thus: "While I was lying in *Al-Ḥaṭīm* (or perhaps he ﷺ said *Al-Hijr*), suddenly someone came to me and cut open my body from here to there." The narrator states: "I asked Al-Jārūd, who was by my side: 'What does he ﷺ mean by this?' He replied: 'He ﷺ means from his throat to his lower abdomen.'"

The Holy Prophet ﷺ said further: "He then took my heart out. Then a gold tray full of Belief (*Īmān*) was brought to me, my heart was washed, filled with *Īmān*, and was then returned to its original place."

-(Ṣaḥīḥ *Al-Bukhārī* VI, P548)

حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها
سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس
ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ
فرماتے زمین پھٹ جاتی اور آپ کا فضلہ
اور پیشاب گل لیتی اور اس سے ماکہ پر
خوشبو پھیلتی۔

عن عائشة رضي الله عنها انه
ﷺ كان اذا اراد
ان يتغوط انشقت الارض
فابتلمت غائطه و بوله
و فاحت لذلك رائحة
طيبة۔

(رواه البيهقي - نسيم الرياض ج ١ ص ٣٥٣)

Ḥaḍrat 'Ā'isha (the Mother of the Believers) رضي الله عنها has reported that when the Almighty Allāh's Apostle ﷺ intended to relieve himself, the earth used to break into a hole, swallow his excretions, and then it gave out a sweet fragrance.

-(Related by Baihaqi, *Nasīm Al-Riyād* VI, P353)

حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها
سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم
ﷺ سے عرض کیا کہ آپ

عن عائشة رضي الله عنها
انها قالت للنبي ﷺ
انك تأتي الخلاء فلا

قضاے حاجت کے لیے تشریف
 لے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے کوئی
 گندگی نہیں دیکھتے، آپ نے اسے
 فرمایا اے عائشہ! اور کیا تو نہیں
 جانتی کہ نبیوں سے جو کچھ خارج ہوتا
 ہے اس کو زمین گل لیتی ہے پس
 اس میں سے کچھ نہیں دیکھا جاسکتا۔

نرى منك شئ من الاذى
 فقال لها يا عائشة او
 ما علمت ان الارض تبتلع
 ما يخرج من الانبياء عليهم السلام
 فلا يرى منه شئ۔

رواه ابن سعد

(نسیم الریاض ج ۱۔ ص ۳۵۳)

Hadrat 'Ā'isha (the Mother of the Believers) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا relates having asked the Almighty Allāh's Apostle ﷺ: "Whenever you leave the lavatory (Khalā'), we see that you never leave any flaw (i.e no trace of dirt remains to be seen)?"

The Almighty Allāh's Apostle replied: "Do you not know that whatever is excreted by the Prophets of Allāh the Almighty (Peace be upon them all) gets swallowed by the earth, so that nothing remains of it to be seen."

-(Narrated by Ibn Sa'd, Nasīm Al-Riyād V1, P353)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَ اللَّهُ لَأَحْمَدَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَجِّزْ عَنْهُ وَعَنْ مَنَافِقِهِ
 وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُمْ وَدَخَلَ بَيْتَكَ اسْتَشْفَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَمَّا الْيَوْمَ

سَيِّدِنَا الْأَطْيَبُ

ہمارے سردار بہت خوشبودار دُرُودِ سَلَامِ حَبِیبِ اللَّهِ ﷺ

Sayyidunā AL-ATYABU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Fragrant صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں تنہی
 خوشبو مجھے حضور اقدس ﷺ سے
 سے آتی تھی وہ نہ کسی عنبر، نہ کسی
 کستوری سے آئی اور میں نے
 کوئی نرم ریشم نہیں چھوا جو حضور اقدس
 ﷺ کی مسحتیلی سے زیادہ نرم ہو



عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ
 وَلَا مَسْكَ وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ
 مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَلَا مَسْتِ شَيْئًا قَطُّ دِيبَا جَا
 وَلَا حَرِيرًا لَيْنَ مَتَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ (الصحيح لمسلج ۲ ص ۲۵۷)

It is narrated by Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : "I have never smelt
 amber or musk or any other scent sweeter and more
 fragrant than the (natural) scent of the Messenger of
 Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. I have never touched silk
 brocade or pure silk smoother than (the palms of) the
 Messenger of Allāh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

-(Ṣaḥīḥ Muslim V2, P257)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 ہمارے ہاں تشریف لائے تو قہولہ
 فرمایا۔ آپ کو پسینہ آیا، میری امی بن
 ایک شیشی لے آئیں اور حضور اقدس
 ﷺ کے پسینہ کو پونچھ کر اس میں
 ڈالتی تھیں تو جناب رسول اللہ ﷺ
 جاگ پڑے اور فرمایا اے ام سلیم!
 تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے
 عرض کیا کہ آپ کے پسینہ مبارک کو
 ہم اپنی خوشبو میں داخل کرتے ہیں۔
 اور وہ بہترین خوشبوؤں میں سے
 ہو جاتی ہے۔

عن انس بن مالك
 ﷺ قال دخل علينا
 النبي ﷺ وعنده فقال
 عندنا فرق و جاءت
 امي بقارورة فجعلت تسلت
 العرق فيها فاستيقظ النبي
 ﷺ فقال يا ام
 سليم ما هذا الذي
 تصنعين قالت هذا
 عرقك نجعله في طيبنا
 وهو من اطيب الطيب.
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱۳ ص ۱۳)

It is reported on the authority of Anas bin Mālik
 ﷺ: "The Messenger of Allāh ﷺ came into
 our presence and took a siesta. He perspired while
 asleep, at which point my mother came with a glass
 bottle and began to collect the perspiration in it. The
 Holy Prophet ﷺ woke up suddenly and asked: 'O
 Umm Salīm! What are you doing?' She replied: 'This
 is your blessed perspiration, which we add to our
 aromatic oils, by which they become the best of
 perfumes!'"

-(Musnad Imām Ahmad bin Hanbal V3, P136)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ ایک امی حضور اقدس

عن ابی ہریرة
 قال جاء رجل الى

رسول الله ﷺ فقال
 يا رسول الله انى زوجت
 ابنتى و انا احب ان
 تعينى بشئ قال ما
 عندى شئ ولكن اذا
 كان غد فأتنى بقارورة
 واسعة الرأس و عود
 شجرة و ايتى ببنى
 و بينك ان تدق ناحية
 الباب قال فانا ه بقارورة
 واسعة الرأس و عود
 شجرة قال فجعل
 يسلط العرق من ذراعيه
 حتى امتلات القارورة
 قال فخذها و مر
 ابنتك ان تعمس هذا
 العود فى القارورة
 و تطيب به قال
 فكانت اذا تطيبت
 به شم اهل المدينة
 رائحة الطيب فسموا
 بيوت المطيبين -

ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
 عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ
 میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے
 اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ
 اس معاملہ میں کچھ تعاون فرمائیں آپ
 نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں لیکن
 کل ایک چوڑے منہ والی بوتل اور
 کسی درخت کی جڑ لے کر آنا اور میرے
 اوتیرے درمیان نشانی یہ ہے کہ تو
 دروازے کا کنارہ کھٹکھٹائے۔ راوی
 کا بیان ہے کہ وہ دوسرے دن چوڑے
 منہ والی بوتل اور درخت کی جڑ لایا حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ اپنے بازو کے
 پسینہ کو پونچھ کر اس بوتل میں ڈالتے
 تھے حتیٰ کہ بوتل بھر گئی۔ آپ نے
 فرمایا کہ اس کو لے جا اور اپنی بیٹی کو
 حکم کر کہ اس جڑ کو بوتل میں بھلو کر
 خوشبو لگائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
 کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی اس پسینے
 مبارک سے خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ
 والوں کو اس کی خوشبو آتی۔ اسی وجہ

سے ان کے گھروں کا نام خوشبودار
 گھر پڑ گیا تھا۔

(رواہ ابو العلی
 تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۲۵)

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ reported that a man came to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ and said: "O the Apostle of Allāh the Almighty ﷺ! My daughter is getting married and I beg you to help me with some money."

The Almighty Allāh's Apostle said: "I have nothing at present to offer, but if you come back tomorrow with a wide-mouthed jar and a stick of ('ūd) a tree, I shall see what I can do for you. But this is between you and me; you must knock on the side of my door."

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ affirmed: "Next day the man brought along a wide-mouthed jar and a stick as indicated to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ wiped the perspiration from his arms into the jar until it was all full. Then he ﷺ instructed him: "Take this jar and tell your daughter to dip the stem inside the jar and apply it as a perfume." Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ reported: "Whenever she applied the perspiration of the Holy Prophet (ﷺ) as a perfume, all the people of Madina could smell its fragrance. For this their house came to be known as 'the House of Scent'."

-(It has been related by Abul 'Ali, Tārīkh Ibn Kathīr V6, P25)

حضرت حمید بن عبد الرحمن
 رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور
 اقدس ﷺ نے وفات پائی تو
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
 کے دوسرے کنارے پر تھے۔ وہ آئے
 اور حضور اقدس ﷺ کے رُخ انور

عن حمید بن
 عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قال
 توفي رسول الله ﷺ
 و ابوبكر رضی اللہ عنہ فی طائفة
 من المدينة قال فجاہ
 فكشف عن وجهه فقبله

سے پرزہ اٹھایا اور آپ کی پیشانی
مبارک کا بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ
آپ پر فدا ہوں۔ آپ زندہ بھی پاک
تھے اور وفات پانے کے بعد بھی
پاک ہیں۔

وقال فداك ابى و امى
ما اطلبك حياً و ميتاً
امسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۶

Ḥaḍrat Ḥumaid bin 'Abdul Raḥmān رضي الله عنه has reported that when the Almighty Allāh's Apostle ﷺ passed away, Ḥaḍrat Abu Bakr رضي الله عنه was on the other side of the City of Madina. When he came along, he uncovered the sacred face of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, kissed his forehead and said: "May my parents be sacrificed for you! How pure you are, both in life and after passing away!"
-(Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V1, P5)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِأُمَّةٍ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشِيرَتِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَّوْهُمُ الْكَلِمَاتُ
 وَمَعَهُمْ حُلُوقُ رُوحِي وَنَشْرِيكَ وَمَدَادُ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ

سَيِّدِنَا أَطْيَابُ الْاَخْلَاقِ

ہمارے سردار پاکیزہ اخلاق والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

Sayyidunā AṬYAB-UL-AKHLĀQ صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader of the Finest Character صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ میں آیا حضورِ اقدس
 صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ نے، مجھے اللہ نے خلاق
 کی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے
 اور اچھے افعال کو کمال تک
 پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔

عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ان النبي صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قال
 ان الله بعثنى لتمام مكارم
 الاخلاق وكمال محاسن
 الافعال رواه في شرح السنة.
 (مشکوٰۃ المصابيح ص ۵۱۳)

Hadrat Jābir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ quotes the Almighty Allāh's
 Apostle صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "Allāh the Almighty has
 sent me to fulfil the virtues of good conduct and to
 perfect good deeds."
 -(Mishkāt Al-Maṣābiḥ P514)

حضرت البرکھ صدیق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے

قال البرکھ الصدیق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ مَا نَأْتِيكَ وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ پاکیزہ
اخلاق تھے اور پاکدامنی میں آپ
کی مثل کوئی نہ تھا۔

كان المصفااء في الاخلاق
قد علموا - وفي العفاف
فلم نعدل به احداً -

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۳ ص ۳۲)

Hadrat Abu Bakr Al-Siddiq رضي الله عنه has reported that the people knew that the Almighty Allāh's Apostle صلوات الله عليه وآله وسلم was of the purest conduct. Indeed, no one matched him in purity and chastity.

-(Al-Ṭabaqāt Al-Kubrā by Ibn Sa'd V2, P320)

حضرت سعد بن ہشام رضي الله عنه کا
بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ
صدیقہ رضي الله عنها سے عرض کی کہ
آپ مجھے حضور اقدس صلوات الله عليه وآله وسلم
کے اخلاق کے بارے میں ارشاد
فرمائیں تو انہوں نے فرمایا کیا ٹونے
قرآن کریم نہیں پڑھا؟ میں نے عرض
کیا کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها نے
فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا حضرت
قاوہ رضي الله عنه فرماتے ہیں قرآن
نے لوگوں کے بہترین اخلاق
بیان کیے ہیں۔

عن سعد بن هشام
رضي الله عنه قال قلت لعائشة
انبيئي عن خلق
رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم
قالت الست تقرأ القرآن؟
قال قلت بلى - قالت
فان خلق رسول الله
صلوات الله عليه وآله وسلم القرآن - قال
قتادة رضي الله عنه وان
القرآن جاء باحسن
اخلاق الناس -

(الطبقات الكبرى لابن سعد
ج ۱ - ص ۳۶۳)

Hadrat Sa'd bin Hishām رضي الله عنه has reported that he

requested Ḥadrat 'Ā'isha Al-Ṣiddīqa رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, the Mother of the Believers, to describe to him something about the character of the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. She said to him: "Have you not read the *Holy Qur'an*?" He replied: "Yes, I have read it." Ḥadrat 'Ā'isha Al-Ṣiddīqa رَضِيَ اللهُ عَنْهَا said: "Indeed, the character of the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was (a practical example of) the *Holy Qur'an*."

Ḥadrat Qatāda رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has stated: "The *Holy Qur'an* has described and taught the best conduct for people."

-(*Al-Ṭabaqāt Al-Kubrā* by Ibn Sa'd VI, P364)

حضرت ابو عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے حضور اقدس ﷺ کے اخلاق مبارکہ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کہ آپ ﷺ گالی گلوں نہ نکالنے والے نہ تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والے تھے اور نہ ہی بدی کا بدلہ بدی سے دیتے تھے لیکن آپ مہمان اور درگزر فرمادیا کرتے تھے۔

عن أبي عبد الله المحمدي
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ لِمَا شَأْنِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ خَلُوتِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا
 وَلَا مَتَفَاحِشًا وَلَا سَخَابًا
 فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي
 بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ
 يَغْفُو وَيَصْفَحُ -

(اخرج ابن أبي شيبة والترمذي
 وابن مردويه - الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥١)

Ḥadrat Abu 'Abdullāh Al-Jadali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has reported having asked Ḥadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "What was the conduct of the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ like?"

She replied: "He never abused anybody. He never shouted in the streets. He never took revenge for an evil committed by anybody against him, but always forgave and pardoned."

-(*Al-Durr-ul-Manthūr* V6, P251)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْأَبَا لَكُمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَخَيْرِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَلَى مَنْ يَتَّبِعُهُ
 وَرَبِّهِ وَخَلْقِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَاتِهِ وَمَا أَوْلَى ذَلِكَ اسْتِغْفَارُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ وَأَمَّا الْبَرَكَةُ

سَيِّدِنَا أَطْيَبُ الْجَسَدِ

ہمارے سردار پاکیزہ جسم مبارک والے دُور دُور سے بھیجے اللہ آپ سے

سَيِّدِنَا أَطْيَبُ الْجَسَدِ
 (Our Leader of the Purest Physique)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں نے کسی ریشم اور دیرینا کو حضور اقدس ﷺ کی تھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی خوشبو یا کوئی عطر حضور اکرم ﷺ (کے پسینہ) کی خوشبو سے عمدہ پائی۔

عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 مَا مَسَسْتُ حَرِيرًا وَلَا
 دِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ
 النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمْتِ رِيحِ
 قَطِّ أَوْ عَرَفَاقِطِ أَطْيَبَ مِنْ
 رِيحِ أَوْ عَرَفَ النَّبِيِّ ﷺ
 (صحيح البخارى ج 1 ص 503)

Hadrat Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has narrated: "I have never touched silk or *Dibāj* (silk brocade) softer than the palm of the Holy Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; nor have I smelt a perfume sweeter and more fragrant than the (natural) scent of the Holy Prophet of Allāh the Almighty صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
 -(*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī V1, P503*)

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ مَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت انس رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 سپید رنگ تھے گویا کہ آپ کا
 پسینہ مبارک ایسا تھا جیسے کہ پتے
 موتی، اور آپ جب چلتے تھے تو
 بل بل کر چلتے تھے اور میں نے کوئی
 ریشم اور دیباچ آپ کی ہتھیلی
 مبارک سے نرم نہیں چھوا اور میں نے
 کبھی ایسی خوشبو نہیں گھبی جو حضور اقدس
 ﷺ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو
 وہ کستوری ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی
 خوشبو۔

عن انس رضي الله عنه قال
 كان رسول الله ﷺ
 ازهر اللون كان عرقه
 اللؤلؤ اذا مشى تكفأ
 وما مسست حريرة ولا
 ديباجا الين من كف
 ولا شمت رائحة قط
 اطيب من رائحته
 مسكة ولا غيرها -
 (سنن الدارمی ج ۱ ص ۳۳)

Hadrat Anas رضي الله عنه has described the Almighty Allāh's Apostle ﷺ thus: "He was of a radiant complexion. Drops of his blessed perspiration resembled pearls. When he walked his whole body would be in harmonious motion. I have never touched any silk or brocade softer than his blessed palm. I had never smelt any perfume, whether it be musk or amber, more fragrant than the blessed perspiration of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ."
 -(Sunan Al-Dārīni V1, P33)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ انہوں نے فت مایا کہ
 حضور اقدس ﷺ کی ہتھیلی مبارک

عن عائشة رضي الله عنها
 قالت كانت كف
 الين من الحرير و كان

کفہ کف عطار مسھا
 بطیب او لم یسھا
 یصافحہ المصافح
 فیظل یومہ یجد ریحھا
 و یضعھا علی رأس
 الصبی فیعرف من
 بین الصبیان انہ
 ﷺ مسح علی
 راسہ۔

(رواہ ابو نعیم والبیہقی۔ نسیم الریاء
 ج ۱ - ص ۳۴۹)

ریشم سے زیادہ نرم تھی اور آپ کی
 ہتھیلی مبارک تو ایسی تھی جیسے کہ کسی
 عطار کی ہتھیلی ہو، اس کو خوشبو لگی ہوئی
 ہو یا نہ لگی ہوئی ہو۔ آپ سے جو مصافحہ
 کرتا تھا وہ سارا دن اس کی خوشبو پاتا
 تھا اور حضور اقدس ﷺ کسی
 بچے کے سر پر اپنی ہتھیلی مبارک رکھتے
 تھے تو وہ بچہ اور بچوں سے پہچانا جاتا
 تھا کہ اس کے سر پر جناب رسول اللہ
 ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک بھیرا
 ہے۔

Hadrat 'A'isha رضی اللہ عنہا has narrated: "His blessed palms were softer than silk. They were like the palms of a perfumer whose hands remain fragrant, whether or not he uses any perfume. Whosoever shook hands with him ﷺ felt his fragrance all day long. The child whom the Almighty Allāh's Apostle ﷺ had patted on the head could be distinguished from other children by the scent that remained from the hand of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ."

-(Narrated by Abu Na'īm and Al-Baihaqi, *Nasīm Al-Riyād VI*, P349)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْأَنْبَاءُ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاتَّخِذْهُ بِعَدْوِيٍّ مَعْلُومٍ أَلَمِ
 وَمَعَدُوِّ خَلْقِكَ وَجَعَلْ قَلْبَكَ وَمَوْءَاظَ لِيكَ اسْتَفْهَمُوا اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَعْلَمُ الْبُرُوقِ

سَيِّدُنَا أَطْيَبُ الذِّكْرِ

ہمارے سردار پائیزہ ذکر والے درود سلام بھیجے لا آیت

صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ SAYYIDUNĀ ATYAB-UDH-DHIKR
 (Our Leader of the Purest Repute صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ)

عن ابى هريرة
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
 إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 اجْعَلْ شَطْرَ صَلَوتِي دَعَاءَ
 لَكَ قَالَ مَا شِئْتُ قَالَ
 فَاجْعَلْ ثَلَاثِي صَلَوتِي
 دَعَاءَ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
 فَاجْعَلْ صَلَوتِي كُلَّهَا دَعَاءَ
 لَكَ قَالَ إِذَا يَكْفِيكَ اللَّهُ
 هُمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ -

(رواه البزار في مسنده - القول البدیع)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا
 کہ میں ایک مخصوص وقت میں آنکھ پٹی
 آپ پر دوڑ پڑھنے میں لگا دوں آپ
 نے فرمایا جیسا تو چاہے اس عرض کیا کہ
 میں تمہاری وقت آپ پر دوڑ پڑھنے
 میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس نے
 عرض کیا کہ میں سارا وقت آپ پر دوڑ
 پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا
 تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی اور آخروی
 غم و ہم کو دور فرمائے گا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

Hadrat Abu Huraira رضي الله عنه has narrated that once a Muslim came to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ and said: "O the Apostle of Allāh the Almighty ﷻ! May I spend half of my praying time on offering salutations to you (i.e. *ṣalawāt 'ala ar-Rasūl* ﷺ)?" The Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied: "As you so desire!" Then he said: "What if I spend two-thirds of my praying time offering salutations to you?" The Almighty Allāh's Apostle ﷺ said: "That is also good." He continued: "I will spend the whole of my prayer-time offering salutations to you!" The Almighty Allāh's Apostle ﷺ told him: "For this, Allāh the Almighty will cast away your grief in this world and in the Hereafter."

-(It has been narrated by Al-Buzār in his Musnad; Al-Qawf Al-Badī' P90)

حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه
 جن کا نام عبد اللہ بن عثمان ہے فرماتے
 ہیں کہ حضور اقدس ﷺ پر دو تہہ
 پڑھنا انہوں کو شانے میں نسبت پانی
 کے آگ کو بجھانے سے زیادہ موثر ہے اور آپ
 پر سلام پڑھنا غلاموں کو آزاد کرنے سے
 افضل ہے اور حضور اقدس ﷺ
 سے محبت رکھنا جانوں کو ہلاکت میں
 ڈالنے سے افضل ہے یا یہ سن لیا کہ
 حضور اقدس ﷺ کی محبت اللہ
 کے راستہ میں تلوار چلانے سے افضل
 ہے۔

عن ابی بکر
 الصدیق رضي الله عنه واسمہ
 عبد اللہ بن عثمان قال
 الصلوۃ علی النبی
ﷺ المحق للخطایا
 من الماء للشار والسلام
 علی النبی ﷺ افضل
 من عتق الرقاب وحب
 رسول اللہ ﷺ افضل
 من مہج الا لفسر او قال
 من ضرب السیف فی
 سبیل اللہ -

(رواہ النیرمی - القول البدیع ص ۱)

Ḥaḍrat Abu Bakr Al-Ṣiddīq رضي الله عنه whose real name was 'Abdullah bin 'Uthmān رضي الله عنه has said: "Reciting salutations to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ (ṣalawāt 'ala ar-Rasūl ﷺ) will wipe out sins more effectively than water extinguishes fire. Reciting salutations to the Almighty Allāh's Prophet ﷺ is an act worthier than the freeing of slaves. Love for the Almighty Allāh's Apostle ﷺ is superior to risking one's life." Or, as he said: "Superior to wielding swords (i.e. during a *fiḥād*) in the cause of Allāh the Almighty."
 -(It has been narrated by Al-Nunairi, Al-Qawl Al-Badī' P90)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ
 رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور
 اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے
 اور فرمایا میں نے رات عجیب و غریب
 خواب دیکھا ہے میں نے اُن کے ایک فرسے
 کو پل صراط پر گھسٹتے دیکھا کبھی وہ سیدھا چلتا تھا
 کبھی وہ لٹکتا تھا کہ اُس کے پاس درود
 آیا جو وہ مجھ پر پڑھا کرتا تھا پس اُس نے کہا
 ہاتھ پکڑا اور اُس کو پل صراط پر سیدھا کھڑا
 کر دیا تھے کہ وہ صبح سالم اس سے
 گزر گیا۔

عن عبدالرحمن بن سمرہ
 رضی اللہ عنہما قال خرج علينا
 رسول الله ﷺ فقال
 اني رأيت البارحة عجباً
 رأيت رجلاً من امتي
 يزحف على الصراط مرة
 ويحبو مرة ويتعلق مرة
 فبجاءته صلوته على
 فاخذت بيده فقامته
 على الصراط حتى جاوزه اخبرني
 الطبراني في الكبير والديلمي في مسند الفردوس
 القول البدیع ص ۹۳

Ḥaḍrat 'Abdul Raḥmān bin Samura رضي الله عنه has stated that once the Almighty Allāh's Apostle ﷺ came to them and said: "I had a strange dream last night. I saw a member of my *Ummah* (followers) crawling on the Bridge of *Ṣirāt*. He walked straight at times and stumbled at others, until the salutation that he used to recite onto me (ṣalawāt 'ala ar-Rasūl ﷺ) came

down to him. It (the salutation) took him by the hand, and helped him stand up on the Bridge until he crossed it safely."

-(It has been related by Al-Tabarāni in his Kabīr and by Al-Daylami in Musnad Al-Firdaus, Al-Qawl Al-Badī' P93)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِالْحُسْنِ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَفِيَّتِهِ وَعَدُوِّهِ وَعَلَى مَنْ تَلَّوْهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَوَعَدْتَهُ وَعَلَى مَنْ تَلَّوْهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَوَعَدْتَهُ وَمَنْ تَلَّوْهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَوَعَدْتَهُ وَمَنْ تَلَّوْهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَوَعَدْتَهُ

سَيِّدِنَا أَطْيَبُ النَّاسِ

ہمارے سردار تمام لوگوں سے زیادہ خوشبودار درود و سلام بھیجے اللہ آپ

Sayyidunā
 AṬYAB-UN-NĀSI RĪHAN
 (Our Leader
 of the Most Fragrant Scent)

یعنی آپ تمام لوگوں سے زیادہ
 پاکیزہ تھے کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک
 کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔



ای از کام و اشدم
 لان عرقه کان اطیب من
 المسک - (شرح المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۱۲)

The title above suggests that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the purest of all people, because his blessed perspiration was more fragrant even than musk.

-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Laduniya V3, P121)

حضرت ثابت (رضی اللہ عنہ) کہتے
 ہیں کہ میں نے حضرت انس (رضی اللہ عنہ)
 کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نہ عنبر



عن ثابت (رضی اللہ عنہ) قال
 انس (رضی اللہ عنہ) ما شممت عنبراً
 قط ولا مسکاً ولا

شیئاً اطیب من ریح
رسول اللہ ﷺ
ولا مسست شیئاً قط
دیباجا ولا حریرا
الین متا من رسول اللہ
ﷺ
(الصصح لمسلم ج ۲ - ص ۲۵۷)

نہ مشک اور نہ کوئی خوشبو ایسی نونگھی
جیسی حضور اقدس ﷺ کے
جسم مبارک کی خوشبو تھی اور نہ ہی
جناب رسول اللہ ﷺ کے
جسم مبارک سے کسی دیباچ اور شیم
کو نرم چھوا۔

Ḥadīrat Thābit رضی اللہ عنہ has reported Ḥadīrat Anas رضی اللہ عنہ as saying: "I have never smelt amber or musk or any other scent as fragrant as the (natural) scent of the Almighty Allāh's Messenger ﷺ. Nor have I ever touched brocade or silk and found it as soft as the touch of the Almighty Allāh's Messenger ﷺ."
-(*Ṣaḥīḥ Muslim V2, P257*)



كَدَالِ النَّاسِ

ہمارے سردار جہان سے زیادہ انصاف کرنے والے درود سلام بھیجنا لہ آپ

Sayyidunā A'DAL-UN-NĀS صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Just of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ” اور مجھے حکم ہوا ہے تمہارے
 درمیان انصاف کرنے کا۔“

اشارہ الی قولہ:
 ” وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ
 بَيْنَكُمْ ط“
 (سورۃ الشوریٰ ۱۵)

Reference to the Holy Qur'an:

And I am commanded
 To judge justly between you.
 -(Ash-Shūra 42:15)

اور حضورِ اقدس ﷺ بہت
 بردبار، بہت بہادر، بہت انصاف
 کرنے والے اور بہت زیادہ پاکدامن
 تھے۔

وكان ﷺ احلم
 الناس و اشجع الناس
 و اعدل الناس و اعف
 الناس -

(احیاء العلوم للغزالی ج ۲ - ص ۳۵۴)

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the most tolerant, valiant, just and chaste of all people.
 -(Al-Ghazālī, Ihyā' Al-'Ulūm Al-Dīn V2, P354)

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اکرم ﷺ نے، اللہ کی قسم تم میرے بعد کسی کو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا نہ پاؤ گے۔

عن ابی بزرۃ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ واللہ لا تجدون بعدی عدل علیکم منی - (رواہ الطبرانی والکبیر - منتخب کنز العمال علی حاشیة منہ لمام احمد بن حنبل ج ۳ - ص ۳۴)

Ḥaḍrat Abu Barza رضی اللہ عنہما has narrated that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ said: "I swear by Allāh the Almighty that after me you will find nobody more just towards you than I."
 -(Related by Ṭabarānī in his Kabīr; Muntakhab Kanz Al-'Ummāl; on the Margin of the Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal, V4, P304)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے اپنی بیویوں کی باری تقسیم فرماتے تو انصاف فرماتے اور فرماتے ارے اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں اور جس کا (محبت) میں مالک نہیں ہوں، مجھے ملامت نہ کرنا۔

عن عائشۃ رضی اللہ عنہما قالت کان رسول اللہ ﷺ یقسم بین نسائہ فیعدل ثم یقول اللهم هذا فعلی فیما املك فلا تلمنی فیما تملك ولا املك -

اسنن ابن ماجہ ص ۱۴۱
 مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۱۴۴

Hadrat 'Ā'isha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا has reported that the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ used to divide the visits to his wives justly, and often prayed: "O Allāh the Almighty! This is my way of choice what I am empowered to control. Do not chastise me for those choices beyond my control (i.e. the choice of love and affection)."

-(Sunan Ibn Māja P141; Musnad Imām Ahmad bin Hanbal V6, P144)

حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے حضور
افسوس کی کلام کے بارے
میں روایت ہے کہ آپ کی کلام دو ٹوک تھی،
نہ بے فائدہ تھی نہ ہی کم و کاست۔

عن علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
في صفة كلامه فصل
لا فضول ولا تقصير -
(اشتمال الترمذی ص ۱۶)

Hadrat 'Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ has reported in respect of the speech of the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ thus: "Very concise and clear; neither verbose nor insufficient."

-(Shamā'il Al-Tirmidhi P16)

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے کہ نصر بن حارث قرشی
نے کہا کہ محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے تم
میں بچپن گزارا ہے جو تم میں سب سے
زیادہ پسندیدہ رہے ہیں اور تم سب سے
زیادہ بات کہتے تھے اور تم میں سب سے
زیادہ مین رہے ہیں تھے کہ جب نیک بولوں
میں سفیدی نظر ہوئی اور تمہارے پاس اللہ
کی وحی لائے تو تم نے انکو جاوڑو کرنا شروع کیا

عن ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال قال النضر
بن الحارث القرشي قد
كان محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيكم
غلاماً حدثاً ارضاكم فيكم
واصدقكم حديثاً واعظكم
امانة حتى اذا رأيتم في صدغيه
الشيب وجاءكم بما جاءكم بقره
ساحر - (النيم الرضا ج ۲ ص ۱۱۱)

Hadrat Ibn 'Abbās رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا has narrated that Hadrat Nadr bin Al-Hārith Al-Qurashi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ spoke to his

people thus: "The Holy Prophet Muḥammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ spent his childhood among you; he was:

- The most pleasant boy among you,
- The most truthful in speech,
- The most trust-worthy among you until his hair began to turn grey and he came to you with a Revelation from Allāh the Almighty. But you began to call him a magician."

-(*Nasīm Al-Riyāḍ V2, P110&111*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْتُ اللَّهَ لِوَجْهِهِ الْإِسْلَامَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَرَحْمَتِهِ مَدَّوْجِلْ مَسْأَلِي
 وَمَا دَعَاكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَشْفَاءُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْغَفُورُ وَأَمَّا إِلَيَّ

سَيِّدُنَا الْأَعْرَبِي

ہمارے سردار سے زیادہ واضح گفتگو والے دُؤوسلا بھیج اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-A'RABU ﷺ
 (Our Leader
 the Most Eloquent in Arabic ﷺ)

حضرت یحییٰ بن یزید سعدی رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ مندرمایا
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں
 تم سے زیادہ اچھی عربی جانتا ہوں
 کیونکہ میں قریش خاندان سے مہمل
 اور میری زبان حلیمہ کے تحت مذکور
 بنی سعد کی زبان ہے۔

عن یحییٰ بن یزید
 السعدی رضی اللہ عنہما قال
 قال رسول الله ﷺ
 انا اعربکم انا من قریش
 ولسانی لسان بنی سعد
 بن بکر۔
 (الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۱۳۳)

Hadrat Yahyā bin Yazīd Al-Sa'dī رضی اللہ عنہ has reported the Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم as saying: "I am the most conversant in Arabic amongst, you as I am a Quraishite, and my language is that of my foster-mother, Halima رضی اللہ تعالیٰ عنہا, who belonged to Banu Sa'd."
 -(Al-Ṭabaqāt Al-Kubrā by Ibn Sa'd VI, P113)

حضورِ اقدس ﷺ جامع
 کلمے دیے گئے تھے اور دانائی کی
 باتوں سے خاص کیے گئے تھے اور
 آپ تمام عرب کی زبان سمجھتے تھے
 ہر قوم کو انہی کی زبان میں خطاب فرماتے تھے
 اور انکے محاورہ کو استعمال فرماتے تھے اور
 ان کی بلاغت کو بیان فرماتے تھے۔

اوتی ﷺ
 جوامع الكلم وخص
 بیدائع الحكم و علم السنة
 العرب يخاطب كل امته
 بلسانها ويجاورها بلغتها
 ويباريها في منزع بلاغتها۔
 (سبل الھدی ج ۲ ص ۱۳۰)

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ was bestowed with the most comprehensive speech, the excellence of which was characterised by utmost wisdom. He understood the dialects of Arabic, and spoke with every group of Arab people in their own dialect, using their idioms and with an excellent command on the rhetoric.

-(Subul Al-Hudā V2, P130)

Quraish, and I grew up in the Banu Sa'd. Then, how could my language be flawed in any way?"

-(Related by Al-Ṭabarānī; Muntakhab Kanz Al-'Ummāl; on the Margin of Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V4, P233)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 فصیح ترین لوگوں میں سے تھے اور
 جب آپ کوئی کلام فرماتے تو لوگ
 (اس کا مطلب) نہ جانتے تھے حتیٰ کہ
 آپ خود اس کی وضاحت فرماتے۔

عن بریدة رضي الله عنه
 قال كان رسول الله ﷺ
 افصح الناس وكان
 يتكلم بالكلام لا يدرون
 ما هو حتى يخبرهم -
 (رواه أبو الحسن بن ضحاک و ابن الجوزی /
 سنن الهدى ج 2 - ص 136)

Ḥaḍrat Buraida رضي الله عنه has reported: "The Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the most eloquent of all people. When he spoke, people could not fully understand its meaning until he himself would explain it to them."

-(Related by Abul Ḥasan bin Ḍaḥāk & Ibn Al-Jawzi, Subul Al-Hudā V2, P137)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ يَتَّبِعُهُمْ
 وَمَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى طَرِيقِهِمْ وَبَارِكْ فِيهِمْ وَبَارِكْ فِي مَا كَسَبُوا مِنَ الْعَمَلِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَعْمَالِ

سَيِّدِنَا الْأَعَزُّ

ہمارے سردار سب سے عزت والے دُرُودِ سَلَامِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ

Sayyidunā AL-A‘AZZU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Honourable صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”کتے ہیں البتہ اگر
 ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دیگا
 عزت والا ذلیل کو۔“

اشارہ الی قوله:
 يَقُولُونَ لِنَنْ رَجِعْنَا إِلَى
 الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ
 مِنْهَا الْأَذَلَّ ط

(سورة المنافقون- ۸)

Reference to the Holy Qur’an:

They say, "If we
 Return to Madina, surely
 The more honourable (element)
 Will expel therefrom the meaner."
 -(Al-Munāfiqūn 63:8)

تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے
 آپ ﷺ سے ملاقات

فلقیہ اسید بن
 حضیر فسأله عن ذلك

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

کی اور آپ سے اسکی بات پوچھا تو آپ
 نے اسکو بتایا تو وہ بولے یا رسول اللہ ﷺ
 آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور
 وہ سب بڑھ کر ذلیل ہے۔

فاخرہ فقال فانت يا
 رسول الله الاعز وهو
 الاذل -

(فتح الباری ج ۱۵ مطبوعہ مصر)

When Ḥadrat Usaid bin Ḥudair رضي الله عنه met the Almighty Allāh's Apostle ﷺ he asked him about the above Verse. The Holy Prophet ﷺ explained it to him. To this he replied: "O the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, indeed you are the most honourable and he (who said such a thing in the above-cited Verse) is the most despicable of men."

-(Fath Al-Bārī V8, P650; Published in Egypt)

سب سے پہلے جس نے آپ سے
 ملاقات کی وہ سعد بن عبادہ رضي الله عنه
 تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسید بن حضیر
رضي الله عنه تھے اور ابن اسحاق نے
 اس کو درست کہا ہے۔ اس نے
 کہا آپ پر لے اللہ کے نبی! سلام
 اور اس کی رحمت اور برکات ہوں!
 آپ نے فرمایا تجھ پر اس کا سلام اور
 اس کی رحمت اور اس کی برکات ہو!
 اس نے عرض کی یا رسول اللہ
ﷺ! آپ نے غیر وقت
 کوچ کیوں فرمایا؟ پہلے تو آپ نے
 کبھی اس وقت کوچ نہ کیا تھا آپ

فكان اول من
 لقيه سعد بن عبادة
رضي الله عنه و يقال اسيد
 ابن حضير و به جزم
 ابن اسحاق فقال السلام
 عليك ايها النبي ورحمة الله
 وبركاته فقال عليه السلام
 و عليك ورحمة الله وبركاته
 قال يا رسول الله قد رحلت
 في ساعة منكرا لم تكن ترحل
 فيها فقال اولم يبلغك ما
 قال صاحبك قال اي
 صاحب يا رسول الله

قال ابن ابي زعمو انه
 ان رجع الى المدينة
 اخرج الاعز منها الاذل
 فقال فانت يا رسول الله
 تخرجهم ان شئت فهو
 الاذل وانت اعز
 والعزة لله و لك
 و للمؤمنين -
 (تفسیر مظہری ح ۹ - ص ۳۰۳)

نے فرمایا تجھے معلوم ہے جو کچھ تیرے
 ساتھی نے کہا۔ وہ بولے میرا کون سا
 ساتھی اے اللہ کے رسول! آپ نے
 فرمایا عبداللہ بن ابی منافق اگر جب
 مدینہ منورہ پہنچے گا تو وہاں سے عزت
 والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔
 اُس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول
 ﷺ! اگر آپ چاہیں گے تو اس کو
 نکال دینگے۔ وہ ذلیل ہے اور آپ عزت
 والے ہیں اور عزت تو صرف اللہ کیلئے
 ہے اور آپ کے لیے اور مومنوں
 کے لیے ہے۔

The first to meet the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was Ḥaḍrat Sa'd bin 'Uḇāda رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. It is also said that Ḥaḍrat Usaid bin Ḥuḍair رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ met the Almighty Allāh's Apostle ﷺ first. The latter has been confirmed by Ibn Ishāq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. He is reported to have said to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ: "May the peace, blessings and mercy of Allāh the Almighty be on you, O the Almighty Allāh's Apostle ﷺ!" To this, the Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied: "May the Almighty Allāh's peace, blessings and mercy be on you too." Then he asked: "O the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, you have set out on a journey at an awkward time and yet you have never set out at such a time before." The Almighty Allāh's Apostle ﷺ replied: "Have you not heard your companion's remarks?" He asked: "Which of my companions, O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ?" The Almighty

Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ said: "Ibn Ubayy (i.e. 'Abdullāh, the hypocrite) who claims that if he returns to Madina, the noble there would drive out all the ignoble people." So he beseeched: "O the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! If you so wish, you can throw him out as he is the most despicable and you are the most honourable. All honour belongs to Allāh the Almighty, to you and to the believers."

-(Tafsir Mazhari V9, P303)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْتُ اللَّهَ رَحْمَةَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ يَدْعُكَ
 وَرَعَى عَقْلَكَ وَرَعَى نَفْسَكَ وَرَعَى دِينَكَ وَرَعَى مَالَكَ اسْتَجَبْنَا لَكَ اللَّهُمَّ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ وَالْمُتَكَبِّرِ الْغَنِيِّ

سَيِّدِنَا الْعَظِيمِ

ہمارے سردار بڑی عظمت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā AL-A‘ZAMU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Greatest صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے
 بندہ یعنی محمد ﷺ کو تھوڑی
 سی رات میں لے گیا مسجد حرامت
 والی سے یعنی مکہ کی مسجد سے دور کی
 مسجد کی طرف یعنی بیت المقدس
 لے گیا جو ایلیا میں ہے وہ جو انبیاء
 کا وطن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 وقت سے چلا آ رہا ہے اور وہاں تمام نبی
 آپ کیلئے ہی جمع کیے گئے تھے آپ
 نے ان کی ان کے محلوں اور گھر میں
 امامت فرمائی پس ثابت ہوا کہ آپ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَعُ
 بَسْبَدِهِ يَمْنَى مُحَمَّدًا ﷺ
 (لَيْلًا) اى فى جِغ الليل
 رَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وهو
 مسجد مكة (الى المسجد
 الأقصى) وهو بيت المقدس
 الذى بايلياء معدن
 الانبياء من لدن ابراهيم
 الخليل عليه الصلوة والسلام
 ولهدا جمعوا له هناك كلهم
 فامم فى محلتهم ودارهم فدل انه هو

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

حضورِ اکرم ﷺ ہی سب سے بڑے
امام تھے اور رئیسِ متقدم تھے اللہ کے
دُرُودِ مُسَلِّمِ ہوں آپ پر اور ان تمام انبیاء پر

الامام الاعظم والرئيس المقدم
صلوات الله وسلامه عليه
وعليهم اجمعين - (تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 17)

"Glory be to Allāh the Almighty Who transported His servant," i.e. Muḥammad ﷺ "by night," i.e. in the dark of night, "from the sacred and sanctified Mosque," i.e. in Makkah, "to the furthest Mosque," i.e. *Masjid-ul-Aqṣā* in Jerusalem, situated in *Īlyā'*, the place of origin of the Almighty Allāh's Prophets (peace be upon them all) since the times of Ibrāhīm *Al-Khalīl* عليه السلام, and that is why they all gathered there. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ led them in prayers in their localities and in their own homeland. This proves that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was indeed the Greatest Leader (*Al-Imām Al-A'zam*), and the head of all the Prophets of Allāh the Almighty (may Allāh's peace and blessing be upon all of them).

-(*Tafsīr Ibn Kathīr V3, P2*)



him ﷺ, or any woman who was forbidden to him.

-(Innām Al-Ghazālī, Iḥyā' Al-'Ulūm, V2, P353-4)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے۔ بیان فرماتی ہیں،
نہیں اللہ کی قسم حضور اقدس ﷺ
کے دست مبارک نے کسی عورت
کے ہاتھ کو کہیں نہیں چھوا

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا
قالت ولا والله ما
مست یدہ ید امرأۃ
قط۔

اصح البخاری ج ۲ - ص ۲۶۶

Ḥaḍrat 'Ā'isha رضی اللہ عنہا has narrated: "By Allāh the Almighty, the Holy Prophet's (ﷺ) hand never touched any woman's hand (who was unlawful to him)."

-(Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī V2, P726)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُهُ
 اللَّهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ
 وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلِيمٌ غَفُورٌ عَلِيمٌ

سَيِّدُنَا الْأَعْلَى

ہمارے سردار سب سے بلند دُرُودِ سَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sayyidunā AL-A'LĀ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Highest (in Status) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ”اور تمہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو،
 اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان
 رکھتے ہو۔“

اشارہ الی قولہ ۱
 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ○ (ال عمران ۱۳۹)

Reference to the Holy Qur'an:

So lose not heart.
 Nor fall into despair:
 For you must gain mastery, if
 You are true in faith.
 -(Āl-'Imrān 3:139)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے
 فرمایا ”پھر جبریل عَلَيهِ السَّلَامُ آپ کو

عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال:
 ثم علا به فوق ذلك بما

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ساتویں آسمان سے اُپر لے گئے جس کو اللہ
 کے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے
 فرمایا کہ یہ ان خیال تھا مجھ سے اُپر کوئی نہ جائیگا

لا يعلمه الا الله فقال
 موسى لم اظن ان يرفع
 علي احد (تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 2)

Hadrat Anas رضي الله عنه is reported to have said: "Then the Archangel Gabriel عليه السلام transported him ﷺ even higher, from (that place) of which no one except Allāh the Almighty had knowledge (i.e. the Seventh Heaven)." The Almighty Allāh's Prophet Mūsā عليه السلام said: "I never thought anyone would go higher than me."

-(Tafsīr Ibn Kathīr V3, P3)

حضرت عبداللہ بن عباس ابو جبرہ نصاری
رضي الله عنهم کہا کرتے تھے کہ فرمایا حضور اقدس
ﷺ نے مجھے اُپر لے جایا گیا حتی کہ
 بہر مائل پہنچ گیا جہاں میں قلم کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔

ان ابن عباس و اباحبة
 الانصاري كانا يقولان قال
 رسول الله ﷺ ثم عرج بي
 حتى ظهرت لمستوى اسمع صوت الاقلام
 (تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 2)

Both Hadrat Ibn 'Abbās رضي الله عنه and Abu Ḥabbah Al-Anṣārī رضي الله عنه used to narrate the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying: "I was taken up to the highest Heaven and when I reached that level I heard the rubbing sound of pens."

-(Tafsīr Ibn Kathīr V3, P10)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِرَحْمَةِ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْفِهِمْ وَغَيْرِهِمْ بِدَوْلَى مَلِكٍ مُلْكِهِمْ
 وَمَعَدَى عُلَمَائِهِمْ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَمِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي اسْتَشْفَى اللَّهُ الْعَرَبَ لَهَا (الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ الرَّحِيمِ)

سَيِّدِنَا الْعَلَمِيسَا

ہمارے سردار اللہ کو زیادہ جاننے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 Sayyidunā AL-A'LAMU BILLĀH
 (Our Leader the
 Most Knowledgeable of Allāh
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کہتی ہیں
 کہ حضور اقدس ﷺ جب لے گول
 کو (اعمال کا) حکم دیتے تو ایسے اعمال
 کا حکم دیتے جن کو وہ ہمیشہ کر سکیں
 (عبادت شائقہ کی ترغیب کبھی انکو
 نہ دیتے تھے تو ایک مرتبہ صحابہ کرام
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 ﷺ! ہم آپ کی مثل نہیں ہیں
 بے شک اللہ نے آپ کے اگلے
 پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں (لہذا
 ہم کو آپ سے زیادہ عبادت کرنی

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 قالت كان رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا امرهم
 امرهم من الاعمال بما
 يطيقون قالوا انا لسنا
 كهياتك يا رسول الله
 ان الله قد غفر لك ما
 تقدم من ذنبك
 وما تاخر فيغضب
 حتى يعرف الغضب
 في وجهه ثم يقول

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

چاہیے، اس پر آپ غضبناک ہوئے
 جتنے کہ آپ کے چہرہ (مبارک) میں
 غضب (کا اثر) ظاہر ہونے لگا۔ پھر
 آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ
 اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور جاننے
 والا ہوں۔

ان اتقاكم واعلمكم
 بالله انا -
 (صحیح البخاری ج ۱ ص ۱)

Hadrat 'Ā'isha رضی اللہ عنہا narrates: "Whenever the Almighty Allāh's Messenger ﷺ ordered the believers to undertake certain deeds (*A'māl*), he ordered them according to their capability (never suggesting to them extreme penance). They said: 'O the Almighty Allāh's Messenger ﷺ, we are not like you (i.e. we have to work harder). Indeed Allāh the Almighty has forgiven your past and future faults.' (See Verse 2 of Sura *Al-Fath* and its Tafsir. Refer also to *Isim* 33: *Al-Akshā Lillāh* regarding this Verse). At this, the Almighty Allāh's Messenger ﷺ became so angry that it showed on his face. He said: 'I am the most fearing of Allāh the Almighty and I know Him better than any of you.'"

-(*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī V1, P7*)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ کچھ لوگ سخت قسم کی عبادت کرتے تھے تو ان کو حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ عزوجل کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں اور آپ فرماتے تھے کہ

عن عائشة رضی اللہ عنہا
 ان ناساً كانوا يتعدون
 عبادة شديدة فهمام
 النبي ﷺ فقال
 والله اني لا علمكم
 بالله عزوجل واخشاكم
 له و كان يقول عليكم

عمل وہ کرو جس کی تمہیں طاقت ہو
 کیونکہ اللہ تعالیٰ تو (ثواب دینے میں)
 نہیں تھکتا حتیٰ کہ تم (عمل کرتے کرتے)
 ہی تھک جاؤ گے۔

من العمل ما تطيقون
 فان الله عز وجل لا
 يمل حتى تملوا۔

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ - ص ۱۲۳)

Ḥaḍrat 'Ā'isha رضي الله عنها has narrated that some people undertook extreme amount of worship, and the Almighty Allāh's Prophet ﷺ forbade them, saying: "I swear by Allāh the Almighty that I have more knowledge of Allāh the Almighty, and I fear him more than all of you; He is the Most Majestic and Most Exalted. Undertake that (*Amal*) which is in keeping with your strength. For Allāh the Almighty, the Majestic and the Exalted, shall not tire (in rewarding you); only you will tire in doing what you are doing."

-(Musnad Inām Aḥmad bin Ḥanbal V6, P122)

حضرت عطاء بن یسار رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب زیادہ
 اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم
 سب سے زیادہ اللہ کی حدوں کو جانتا ہوں۔

عن عطاء بن يسار
رضي الله عنه قال قال رسول الله
ﷺ والله إني
 لا أقامك الله وأعلمكم
 بحدوده۔

(موطاء، امام مالك ص ۲۳)

Ḥaḍrat 'Aṭā' bin Yasār رضي الله عنه has quoted the Almighty Allāh's Prophet ﷺ as saying: "I swear by Allāh the Almighty, that I am the most fearful of Allāh the Almighty among you, and I know His limits better than all of you (i.e. those ordained for believers)."

-(Muwattā' Inām Mālik P231)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لَوْحَةَ الْإِنْبَاءِ اللَّهُ
الْأَمْرُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنِي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَآلِهِ وَارْحَمْنِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْحَمْنِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْحَمْنِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدِنَا الْأَعْزَمُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار روشن پیشانی والے دُودُوسلا بھیجے اللہ آپ

Sayyidunā AL-AGHARRU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Beautiful صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت یوسف بن مازن مازنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے میرے مومنین!
مجھے حضور اقدس صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صفت
بیان کریں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ
روشن پیشانی والے تھے۔ سفیدی میں
سُرمئی ملی ہوئی تھی، مبارک بھاری تھا
سفید پٹے سرخ روشن چہرے کے
ابرو کمان دار تھیں۔ الاغر کے
معنی الابيض کے ہیں۔

عن يوسف بن مازن
المازني ان رجلا قال
لعلي يا امير المؤمنين
انعت لنا رسول الله
قال كان ابيض مشرباً
حمره ضخم الهامة اغر
ابلع اهدب الاشفار -
الاجر الابيض -
رواه يعقوب بن سفيان - ابن كثير
ج ٦ - ص ١٨ - ص ١٠٩ (٢٥٩)

Ḥaḍrat Yūsuf bin Māzin Al-Māzini رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has narrated that a man asked Ḥaḍrat 'Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : "O Commander

of the Faithful, tell us about the qualities of the Almighty Allāh's Prophet ﷺ." Ḥadrat 'Ali ﷺ replied: "He ﷺ was of a fair, ruddy complexion; his noble head was weighty; he was bright and beautiful (*Agharr*), with long eyelashes."

Al-Agharr also means 'white'.

-(It has been related by Ya'qūb bin Sufyān, *Ibn Kathīr V6, P18; Ṣurāḥ*)

آپ حسین چہرہ والے تھے۔



اغزرة اى احسن وجہا

(جمع الجارج مرآة)

Agharr also means 'handsome'. He ﷺ was *Agharru ghurratan*, i.e. most handsome of face.

-(*Majma' Al-Bihār V3, P14*)

الاعزرا کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز

سے سفید۔



والاعزرا الابيض من كل

شیء - (القاموس لجمع مرآة)

Agharr also means 'whiter' and brighter than everything.

-(*Al-Qāmūs V2, P101*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ أَسْرًا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَوْحَادِهِ وَصَفْوَتِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَّمَعَتْ أَلْسِنَتُهُ
 وَمِنْ دَوْلَتِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَمَّحَتْ مِنْهُ وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَّا بِكَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ

سَيِّدِنَا أَغْيَارُ

ہمارے سرسار سب سے زیادہ غیرت مند دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کی

Sayyidunā AGHYARU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 the Most Respectful of Honour صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت سعد بن عبادہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دکھیوں تو میں اسے سیدی ملوار سے مار دوں تو یہ بات حضور اقدس ﷺ کو پہنچی، پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگ، سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو۔ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیرت ہی کے سبب بدکار یوں کو، خواہ وہ

عن سعد بن عبادہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مَصْفُوحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَارٌ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَارٌ مِنْهُ وَمَنْ أَجَلُ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَمٌ وَاللَّهُ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ

ظاہر ہوں یا پوشیدہ، حرام کر دیا
 ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی
 ایسا نہیں جس کو عذر پسند ہو،
 اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں
 کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کیلئے بھیجا
 اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف
 پسند نہیں ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ
 نے جنت کا وعدہ فرمایا۔

اليه العذر من الله ومن
 اجل ذلك بعث المنذرين
 والمبشرين ولا احد احب
 اليه المدحة من الله
 ومن اجل ذلك وعد الله
 الجنة -

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۱۳)

Hadrat Sa'd bin 'Ubāda رضي الله عنه said: "If I saw my wife with a stranger, I would strike him dead with my sword there and then."

This news reached the Almighty Allāh's Messenger ﷺ who then said: "You people are impressed with the *ghaira* (sense of honour) of Sa'd رضي الله عنه. By Allāh the Almighty, I have more *ghaira* than he, and Allāh the Almighty has more *ghaira* than I. It is because of this *ghaira* that He has made unlawful shameful acts (e.g. illicit sexual intercourse) in open or in secret. And there is none Who loves to forgive more than Allāh the Almighty. That is why Allāh the Almighty sent warners and the bearers of good news (i.e. the Holy Prophets, peace be upon them all). There is none Who loves praise more than Allāh the Almighty. This is why he has promised Paradise (to the one who repents and glorifies Him)."

-(*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī V2, P1103*)

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے
 روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ
رضي الله عنه نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ

عن ابی ہریرۃ رضي الله عنه
 قال قال سعد بن عبادۃ
رضي الله عنه یا رسول اللہ ﷺ

(ﷺ) اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی اور آدمی کو پاؤں توکیا میں اسکو نہ چھوؤں حتیٰ کہ میں چار گواہ لاؤں؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہما بولے ہرگز نہیں، قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جس نے آپ کو سچ دے کر مبعوث فرمایا تحقیق میں تلوک سے اس کا خاتمہ پہلے ہی کر دوں گا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کچھ تمہارا سردار کہتا ہے اس کو سنو۔ بیشک وہ بڑا غیرتمند ہے اور میں اس سے زیادہ غیرتمند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرتمند ہے۔

لو وجدت مع اہلی رجلاً لم امسہ حتی اتی باربۃ شہداء۔ قال رسول اللہ ﷺ نعم، قال کلاً والذی بعتک بالحق ان کنٹ لا عاجلہ بالسیف قبل ذلک۔ قال رسول اللہ ﷺ اسمعوا الی ما یقول سیدکم انہ لعیور وانا اغیرمنہ و اللہ اغیرمتی۔
 (الصیح لمسلم - ج ۱ - ص ۲۹۱)

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہما has reported Hadrat Sa'd bin 'Ubada رضی اللہ عنہما as saying: "O Messenger of Allāh the Almighty ﷺ, if I were to find my wife with a man, should I not touch him before bringing along four witnesses?" The Almighty Allāh's Messenger ﷺ said: "Yes." He remarked: "No way. By Him Who has sent you with the truth, I would sooner put him down with the sword before all that." The Almighty Allāh's Messenger ﷺ said: "Listen to what your leader (appointed above you) says. He (your leader) has a high sense of honour; I have a better sense of honour than he; and Allāh the Almighty has a higher sense of honour than I."

-(Sahih Muslim VI, P491)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَدَّرَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَلَّا يَكُونَ لَهُمْ خَلِيفَةٌ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَارَكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي أَمَرَ بِالْإِسْلَامِ وَخَرَجَ بِمَعْدِنَا عَلَى مَلَكُوتِ الْوَالِدِ وَوَعَدَ وَعَلَّقَ وَجْهَ نَفْسِكَ وَبَشَّرَكَ وَمَدَّ كُلَّ بَلَدٍ اسْتَفْضَلَهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

سَيِّدِنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ

ہمارے سردار عرب کے بڑے فصیح، دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ الْآدَمِیِّ

ﷺ Sayyidunā AFSĀḤ-UL-‘ARAB (Our Leader the Most Eloquent of All Arabs) ﷺ

حضرت ابوالفضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے سردار اور مولانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبِ العالمین علی الاطلاق تمام جہان سے زیادہ فصیح تھے۔ خود آپ نے فرمایا میں عرب کا زیادہ فصیح ہوں۔

قال ابو الفضل رضی اللہ عنہ افصح الخلق على الاطلاق سيدنا و مولانا رسول الله ﷺ حبيب رب العالمين. قال رسول الله ﷺ انا افصح العرب (البلد 3)

Hadrat Abul Faḍl رضی اللہ عنہ writes: "Our leader and chief, the Almighty Allāh's Prophet ﷺ, the beloved of Allāh the Almighty, was without any doubt the most eloquent of all mankind."

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ himself said: "I am the most eloquent of all Arabs."

-(Al-Balāgha P33)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

حضرت بریدہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تمام لوگوں سے فصیح اللسان تھے۔

عن بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال
 كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح
 الناس - (الوفاء لابن الجوزي ص 256)

Hadrat Buraida رَضِيَ اللهُ عَنْهُ is reported to have said: "The
 Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the most
 eloquent of all mankind."

-(Al-Wafā' by Ibn Al-Jawzi P456)

حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرب میں
 سب سے فصیح اللسان تھے اور انہیں
 واضح بیان اور شیریں زبان اور بہت
 پختہ الفاظ اور بہت ظاہر لہجے
 والے اور بہت مضبوط دلیل والے تھے۔

ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كان أفصح العرب لساناً و
 أوضحهم بياناً وأعذبهم نطقاً
 وأسدهم لفظاً وأبينهم لهجة
 وأقومهم حجة - (نهایة لابن اثیر
 ج 1 - ص 1)

Indeed the Almighty Allāh's Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ was the
 most eloquent in his language; most distinct in his
 diction; most sweet in his utterances; most sound of
 words; most clear in his accent; and most forceful in his
 argument.

-(Nihāya by Ibn Al-Athīr V1, P3)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ نَبِيَّكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِأَنَّكَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ عَلَمِ مَعْلُومٍ أَنْ
 رَمَعَهُ وَخَلَقَكَ وَجَمَّ نَسَبَكَ وَبَدَأَ خَلْقَكَ وَمِنَّا كَمَا بَدَأَ خَلْقَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَكِيمُ وَأَمَّا أَبُو

سَيِّدُنَا أَفْصَحُ النَّاسِ

ہمارے سردار سب سے زیادہ فصاحت والے دُور و ملامت بھیجے اللہ آپ

Sayyyedunā AFṢAH UN-NĀS ﷺ
 (Our Leader
 the Most Eloquent of People ﷺ)

وہ حدیث جس میں ہے کہ آپ
 حضور اقدس ﷺ بول چال میں
 تمام لوگوں سے فصیح تھے اور آپ
 تمام لوگوں سے شیریں زبان تھے،
 اس کو حضرت ابو الحسن الضحاک رحمۃ اللہ علیہ
 نے کتاب الشامل اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ
 نے وفاء میں بیان کیا ہے۔

حدیث کان افصح
 الناس منطلقا و احلاهم
 كلاما ابو الحسن بن
 الضحاک فی کتاب
 الشامل و ابن الجوزی
 فی الوفاء۔
 (المعنی للعراق حاشیہ اعیان علوم الدین ج ۳ ص ۳۶)

The *Hadīth* stating that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the most eloquent of all mankind in speech and that he was the sweetest in conversation, has been included in the *Kitāb al-Shamā'il* (Book of Virtues) by Abul Ḥasan Al-Daḥḥāk رحمۃ اللہ علیہ, and in *Al-*

Wafā' by Ibn Al-Jawzi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

-(Al-Mughni by al-'Irāqī on the Margin of Ihyā' Al-'Ulūm Al-Dīn
V2, P363)

اور وہ حدیث جس میں ہے کہ
جنت والے حضور اقدس ﷺ
کی زبان بولیں گے اور اس حدیث
کو صحیح کہا ہے کہ جنت والوں کی زبان
عربی ہوگی۔

حدیث ان اهل
الجنة يتكلمون بلغة
محمد ﷺ و صحبه
كلام اهل الجنة عربي.
(المغني للرافعي حاشية احياء علوم الدين ج ٢ ص ٣٦٣)

And the *Hadīth* stating that the people of Paradise will speak the language of the Holy Prophet Muḥammad ﷺ also confirms that the language of the people in Paradise is Arabic.

-(Al-Mughni by al-'Irāqī on the Margin of Ihyā' Al-'Ulūm Al-Dīn
V2, P362)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولَىٰ لَهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ
 وَمَوْلَاكَ وَرَحِمْتَ نَبِيَّكَ وَمَوْلَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِنَا أَفْضَلُ النَّاسِ

ہمارے سردار تمام مخلوق سے افضل، دُودُؤْ سَلَامٌ مِجِیْلَہِ اللہِ سَیِّدِنَا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *Sayyidunā AFDAL-UN-NĀS*
 (Our Leader the Best of People) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت حسان بن ثابت رضي الله عنه
 فرماتے ہیں۔ "اے جہان سے افضل
 میں نے نہر میں غوطہ لگایا اور اب
 میں نفیس منہسہ در لعل کی طرح
 ہو گیا ہوں۔"

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه
 يا افضل الناس
 اذى كنت فى نهر
 اصبت منه كمثل
 المفرد الصادى
 ۱. الف. ص. ۲۶

Hadrat Hassān bin Thābit رضي الله عنه says: "O most superior of all mankind, I dived into the river (of Īmān) and now I have become like a unique pearl."
 -(Al-Rawd Al-Unf V4, P267)

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما

ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرب کو پسند فرمایا۔ پھر عرب قریش کو پسند فرمایا اور پھر قریش سے بنو ہاشم کو پسند فرمایا پھر نبی ہاشم سے مجھے پسند فرمایا تو میں اسکی مخلوق میں سب سے افضل ہوں۔

خلق الله الخلق اختار العرب
ثم اختار من العرب قريشاً، ثم
اختار من قريش بنى هاشم، ثم
اختارني من بنى هاشم، فأنا
خيرة من خيرة -

(سبل الهدى المجلد الاول ص ۲۶۹)

Hadrat 'Abdullah Ibn 'Umar رضي الله عنهما has reported the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "When Allāh the Almighty created mankind, He selected the Arabs; from among the Arabs, He selected the Tribe of Quraish; from among the Quraish, He selected the Banu Hāshim and, then, He selected Me صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ from the Tribe of Hāshim. So, I am the best of all His creation."

-(Subul Al-Hudā V1, P269)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُخَيِّرْ بَيْنَ أُمَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ وَعَفِّرْ عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
وَمَنْ عَفَاكَ وَعَفِي عَنْكَ وَرَحِمَكَ وَرَحِمَكَ وَمَدَّ يَدَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدُ أَقْبَى الْأَنْفِ

ہمارے سردار اویچی بسینی والے درود ملا بھیجے اللہ آپتے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā AQNAL ANF
(Our Leader
of the Most Elegant Nose صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت عبداللہ بن معمر رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے، کہ سب سے پہلے میرا
تعارف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
(اس طرح) ہوا کہ میرے چچا مجھے
مکہ مکرمہ لائے اور ہم حضرت
عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
کو چاہ زمزم کے پاس لے، ہم انکے
پاس بیٹھ گئے، اچانک ایک شخص
باب صفا سے نمودار ہوا، اس کا
رنگ سفید تھا، جس میں سُرخ مٹی مٹی
تھی اور ان کی زلفیں پھیلا رہی تھیں جو

عن عبداللہ بن مسعود
قال ان اول شیء علمته من
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قدمت
مكة في عمومة لي فارشدونا
الى العباس بن عبدالمطلب
فانتهينا اليه وهو جالس
الى زمزم فجلسنا اليه
فبينما نحن عنده اذا قبل
رجل من باب الصفا
ابيض تملوه حمرة له وفرة
جعدة الى انصاف اذنيه

کانوں کی لوتکتیں ان کی بسینے
 اونچی، براق دندان، سیاہ آنکھیں،
 گھسنی داڑھی، سینے پر بالوں کی لکیر،
 بھاری پھیلے اور پاؤں والے آپ
 پر دو سفید چادریں تھیں۔ ایسا معلوم
 ہوتا تھا گویا چودھویں رات کا چاند
 ہے۔

اقنی الاف براق الشایا
 ادعج العینین کت اللعیة
 دقیق المسربة شثن الکفین
 والقدمین علیہ ثوبان
 ابیضات کانه القمر
 لیلۃ البدر -

(رواہ حافظ ابو نعیم الاصبہانی

تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۵۱)

Ḥaḍrat 'Abdullāh bin Mas'ūd رضی اللہ عنہ is quoted to have said: "The first thing I noticed in the Almighty Allāh's Apostle صلی اللہ علیہ وسلم was as follows: "I came to the Holy City of Makkah *Al-Mukarrama* with my uncle. He told me the whereabouts of Ḥaḍrat 'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib رضی اللہ عنہ. When we both reached there, we saw Ḥaḍrat 'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib رضی اللہ عنہ sitting near the *Zam-Zam* well. So we both sat there with him. While we were sitting, all of a sudden, an extremely handsome man صلی اللہ علیہ وسلم approached through the gate of *Al-Safā*. He was of a brilliant, white and ruddy complexion; had locks of thick, curly hair that hung down to his ear-lobes; an aquiline, bold nose; brilliant, clean teeth; jet-black eyes; a thick beard; a long strip of hair on his chest that ran down to his navel; and robust hands and feet. He صلی اللہ علیہ وسلم was clad in two white garments, and appeared like a full, bright Moon on a pitch-dark night."

(It has been narrated by Ḥāfiẓ Abu Na'īm Al-Isfahānī, *Tārīkh Ibn Kathīr* V6, P18)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 میں سے ایک صحابی سے روایت ہے

قال رجل من
 اصحابه رضی اللہ عنہم کان

کہ حضورِ اقدس ﷺ
 باریک بینی تھے۔

رسول اللہ ﷺ دقیق
 الانف۔

(رواہ البیہقی - سبل المہدی ج ۱ ص ۱۰۱)

One of his Companions رضی اللہ عنہ has reported that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ had a fine, aquiline nose.

-(Subul Al-Hudā V2, P41)

حضورِ اقدس ﷺ کے
 (چہرہ انور پر) نور چمکتا تھا لیکن جو
 شخص غور سے نہ دیکھتا وہ گمان کرتا
 کہ آپ کی ناک مبارک اونچی ہے
 حالانکہ وہ تو نور کی بلندی تھی جو کہ
 اونچی نظر آتی تھی اور لوگ اس کو یعنی
 اونچی بینی کو، نیک نختی و سعادت مندی
 خیال کرتے ہیں۔

آنحضرت صلاہ علیہ وسلم را
 نور سے مشعل بود کہ گمان سے برد
 کسیک نیک تامل نے کر د کہ
 بلند است و بلند نبود آن
 بلندی نور بود کہ بالاسے
 دوید و آن را نشان نیک نختی
 و سعادت مندی سے دارند
 (ماریج استنبہ ج ۱ ص ۱۰۱)

The light would shine radiantly at Almighty Allāh's Apostle's ﷺ (face). Whoever had not looked at it closely would assume that his blessed nose was high. Yet it was the height of light that could be seen so high, and people consider a high nose to be a symbol of honour and a sign of happiness.

-(Madārij Al-Nubuwwah VI, P10)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولَىٰ لَهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَارِكِ مَا تَرَكْنَا وَخَالِجِ مَا خَلَجْنَا
 وَمَنْعِ مَا مَنَعْنَا وَرِجِّ نَفْسَنَا وَبَيْتَنَا بِكَ وَمَا دَخَلْنَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدُنَا أَقْنَالُ الْعَرَبِ

ہمارے سردار اویچی بسینی والے دُرُودِ سَلَامِ بِحَمْدِ اللَّهِ

Sayyidunā AQNAL-‘IRNAIN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader
 With a High Bridged Nose صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت حسن بن علیؑ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں
 جن کا اسم گرامی ہند بن ابوالہ تمیمی
 تھا اور جو حضور اقدس
 کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے
 پوچھا اور مجھے یہ حدیث یاد تھی کہ وہ حلیہ مبارک
 بیان کریں جس کو میں محفوظ کر لوں،
 انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرمؐ کا
 بلند، بھاری جسم والے تھے، آپ کا
 چہرہ مبارک چودھویں رات کے
 چاند کی طرح جلوگاہ تھا، درمیانے قد

عن الحسن بن علیؑ
 قال سألت خالی ہند بن
 ابی ہالۃ التمیمی وکان
 وصافاً عن حلیۃ رسول اللہ
 ﷺ وانا اشتہی ان
 یصف لی منها شیئاً اتعلق
 بہ فقال کان رسول اللہ ﷺ
 غمماً مغمماً یتلاؤا وجہہ
 تلاً لؤلؤ التمر لیلۃ البدر
 اطول من المربع وواقصر
 من المشذب عظیمو

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

سے قدے اُونچے تھے، سر مبارک
 بڑا تھا، بال ایسے جیسے لگھمی کی گئی ہو،
 اگر وہ ہلستا تو بال بکھر جاتے ورنہ
 ویسے ہی رہتے۔ کانوں کی نو سے بال
 تجاوز نہ کرتے تھے۔ آپ کی زلفیں تھیں
 سفید رنگ فراخ پیشانی، ابرو گمان دار
 جو ملی ہوئی نہ تھیں، ان کے درمیان ایک رنگ
 تھی جو غصے کے عالم میں پھٹنے لگتی
 تھی، ناک مبارک اونچا تھا جس پر نور کی
 بارش برس ہی ہو جو غور سے نہ دیکھتا
 وہ گمان کرتا کہ آپ کی بینی مبارک بہت اونچی ہے

المامة رجل الشران
 انفرقت عقيبته فرق
 والا فلا يجاوز شعره
 شحمة اذنيه اذا هو
 وفره ازهر اللون واسع
 الجبين ازج المواجب
 سوانج في غير قرن بينهما
 عرق يديره الغضب اقنى
 المرنين له نور تفلوه
 يحسبه من لم يتامله اشم -

(الطقات الكبرى لابن سعد ج 1 ص ۴۲۲)

Ḥaḍrat Ḥasan bin 'Alī رضي الله عنه said: "I asked my maternal uncle Ḥaḍrat Hind bin Abu Ḥāla Al-Tamīmī رضي الله عنه, who used to describe the appearance of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, and I was extremely keen to hear him describe it to me so that I might become attached to it. He stated that the Almighty Allāh's Apostle ﷺ was of magnificent stature. His face glimmered like the light of a full Moon. He was of slightly taller than average height, but not too tall. His head was grand. His hair was combed into a parting. If his head moved the hair parted, otherwise it remained in position. His locks of abundant hair never hung down lower than his ear lobes. He had a broad forehead and fair complexion. His eyebrows were arched and long but did not join together. Between them was a vein that would twitch when he ﷺ became angry. He had an aquiline, curved upper part of the nose on which bright light shone, and whosoever did not look at it closely, reckoned that he had a high nose."

-(Ṭabaqāt Al-Kubrā by Ibn Sa'd VI, P422)

اور ناک کا اونچا ہونا خوبصورتی
 اور مدح کی صفات میں سے ہے
 اور مردوں میں سرسراہی کی علامت
 ہے۔ (جیسا کہ) حضرت حسان
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے کہا ہے:
 ”سفید چہروں والے، عالی حسب
 اونچی ناک والے (یہ ہیں صفات اعلیٰ
 جو عالی مرتبت سرسراہی ہیں)

وهو من صفات
 الجمال و المدح و علامة
 السوود في الرجال -
 قال حسان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 ”بيض الوجوه كرائم احابهم
 شم الانوف من الطراز الاول“
 (نسيم الرياض للعلامه للفناحي ج ١ ص ٣٢)

An aquiline (high) nose is a sign of beauty and admiration. It is also a symbol of leadership amongst men. Hadrat Hassān رَضِيَ اللهُ عَنْهُ says: "Those having charming faces, high deeds and lofty noses are the people of the first order."

-(Nasīn Al-Riyāḍ by 'Allāma Al-Khafāji V1, P330)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
 وَمَنْ دَعَا إِلَى هَدْيِهِمْ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَتِهِمْ وَأَعْيُنُنَا عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ كَمَا دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ

الأَكْبَرُ

ہمارے سردار بزرگ ترین درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کی

Sayyidunā AL-AKBARU صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Greatest صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت مغیرہ بن ابو رزین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 روایت کیا کہ حضرت عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے پوچھا کیا آپ دونوں سے بڑا
 کون ہے، آپ یا حضور امیر
 رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ تو انہوں نے فرمایا
 آپ ہی بڑے ہیں لیکن میری
 پیدائش آپ سے پہلے ہوئی تھی۔

عن مغيرة بن أبي
 رزین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قيل
 للعباس بن عبد المطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 أيما أكبر أنت أم النبي
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال هو
 أكبر مني و أنا ولدت
 قبله -

(المستدرک للعاکم ج ۳ - ص ۲۰۲)
 کتاب الادب، لابن جوزی، ص ۵۵)

Hadrat Mughira bin Abu Razin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has reported that Hadrat 'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ was asked: "Who is the eldest, you or the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?". He remarked: "He (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) is

greater than I though I was born before him."

-(*Al-Mustadrak* by *Al-Hākim* V3, P302; *Kitāb Al-Adhkiyā'* by *Ibn Al-Jawzi* P15)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا
 اللَّهُ مَصْرَفٌ وَسَلْوَةٌ بِرِضَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَسَلْوَةٌ بِسَيِّدِنَا خَيْرٌ مِنَ النَّارِ وَالْحَيُّ وَالْقَيُّومُ وَالْحَكِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ
 وَمَا خَلَقْتَ وَجْهَ طَائِفَةٍ مِنْ نَسْلِكَ وَمَا خَلَقْتَ وَجْهَ طَائِفَةٍ مِنْ نَسْلِكَ وَمَا خَلَقْتَ وَجْهَ طَائِفَةٍ مِنْ نَسْلِكَ وَمَا خَلَقْتَ وَجْهَ طَائِفَةٍ مِنْ نَسْلِكَ

سَيِّدُنَا أَكْبَرُ الْبَرِيَّةِ

ہمارے سردار تمام لوگوں سے بڑے درود و سلام بھیجنا اللہ پر ہے

ﷺ Sayyidunā AKBAR UN-NĀS
 (Our Leader
 the Greatest of All People ﷺ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 "سو عورتوں نے جو ان (یوسف) کو دیکھا
 تو حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ
 لیے اور کہنے لگیں حاشا یہ شخص آدمی
 ہرگز نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے"

اشارہ الی قولہ:
 " فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
 وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ
 حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
 إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ "

(سورۃ یوسف ۳۱)

Reference to the Holy Qur'an:

When they (ladies) saw him,
 (the Holy Prophet Joseph ﷺ)
 They did extol him,
 And (in their amazement)
 Cut their hands: they said,
 "God preserve us! no mortal

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

Is this! This is none other
Than a noble angel!"
-(Yūṣuf 12:31)

اور احمد اس معنی میں ہیں
اللہ تعالیٰ کی حمد میں سب لوگوں
سے بڑے۔

و احمد بمعنی اکبر
من حمد۔
(الشفاء بتبریع حقوق المصطفیٰ للعاصی عیاض
ج ۱ ص ۱۵۰)

The word *Aḥmad* means the Greatest of all those
people who praise Allāh the Almighty.
-(*Al-Shifā bi Ta'rīf Huqūq Al-Muṣṭafā* by Qāḍi 'Iyād VI, P150)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
نقل کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم ﷺ
کی صفت میں یہ شعر پڑھا کرتی تھیں
” زلیخا کو ملامت کرنیوالی عورتیں
اگر حبیب اقدس ﷺ کو کہتیں
تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دلوں کو کاٹ
ڈالتیں۔“

مصر کی عورتوں نے حضرت
یوسف علیہ السلام کے جلوہ کے وقت
بے خودی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ
ڈالا، ضروری ہے کہ وہ دل پارہ پارہ
کردیتیں اگر اے نور چشم ﷺ!
تیرا جمال ملاحظہ کرتیں۔

از عاتق نقل میکند
کہ در صفت حال حضرت
رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ
و السلام فرمود :

شعر
لوامی زلیخا لور این حبیبہ
لا تزن بالقطع القلوب علی الید
زنان مصر حب کام جلو یوسف
ز روی بخودی از دست خویش بریدند
مقرر است کہ دل پارہ پارہ میکزند
اگر جمال تو ای نور دین میدیند
تفسیر المواہب العلیۃ للملاحین
بن علی الکاشغری الواعظ - ص ۲۰۵

It is reported that Ḥaḍrat 'Ā'isha Al-Ṣiddīqa رضی اللہ عنہا
used to recite the following Verses in praise of the

Almighty Allāh's Apostle ﷺ : "Had the women, who cursed Zulaikha seen the Almighty Allāh's Apostle ﷺ they would have cut their hearts instead of their hands."

This refers to the women of Egypt, who, at the sight of Prophet Yūsuf عليه السلام, cut their hands with knives in wonder. But they would, undoubtedly, have cut their hearts to pieces instead if they had seen your 'beauty', O the Almighty Allāh's Prophet ﷺ!

-(Tafsīr Al-Mawāhib Al-'Aliyya by Mullā Ḥussain bin 'Alī Al-Kāshifī Al-Wā'iz P305)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلْفًا وَرَسُولًا وَمَنْ كَانَ خَلْفًا لِرَسُولٍ فَهُوَ مِنْهُ وَإِنَّمَا كُنَّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي كِتَابٍ فَكَانُوا مِنْهُ وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُ فَهُوَ مِنْهَا وَإِنَّمَا كُنَّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي كِتَابٍ فَكَانُوا مِنْهُ وَإِنَّمَا كُنَّ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي كِتَابٍ فَكَانُوا مِنْهُ

سَيِّدُنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَابَعًا

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ پیرو کاروں کے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

Sayyidunā
 AKTHAR UN-NĀSI TAB‘AN
 ﷺ
 (Our Leader
 with the Largest Following ﷺ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں نبیوں میں سب سے زیادہ اُمت والا ہوں گا قیامت کے دن اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔

عن انس بن مالك
 قال قال رسول الله ﷺ
 انا اكثر الانبياء تبعًا
 يوم القيمة و انا اول
 من يقرع باب الجنة -
 (الضعي لمسلم ج 1 - ص 112)

Hadrat Anas bin Mālik رضي الله عنه has reported the Almighty Allāh's Prophet ﷺ as saying: "I will be the Prophet ﷺ who will have the most followers on the Day of Judgement, and I will be the first to knock at the gate of Paradise."
 -(Ṣaḥīḥ Muslim VI, P112)

وَمَا تَقْبَلُ مِنَّا إِلَّا أَنْ نَكُونَ تَابِعًا لِعَلِيمٍ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

عن انس بن مالك
 ﷺ في قصة المعراج
 قال رسول الله ﷺ
 ثم صعد حتى اتى
 السماء السادسة فاستفتح
 فقيل من هذا؟ قال
 جبريل - قيل ومن
 معك قال محمد قيل
 او قد ارسل اليه؟
 قال نعم - قيل مرحبا
 به ولنعم المبحى جاء
 ففتح لنا فلما خلصت
 فاذا انا بموسى ﷺ
 قال هذا موسى ﷺ
 فسلم عليه فسلمت عليه
 فرد السلام ثم قال
 مرحبا بالاخ الصالح و
 النبی الصالح قال
 فلما تجاوزته بكى
 قيل له ما يبكيك
 قال ابكى لان غلاما
 بعث بعدى يدخل

حضرت انس ﷺ معراج
 کے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ
 فرمایا حضور اقدس ﷺ نے پھر
 مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ مجھے چھٹے
 آسمان پر لے جایا گیا حضرت جبریل
 ﷺ نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا
 کون آئے ہیں؟ جبریل ﷺ نے
 کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ
 کے ساتھ کون ہے؟ جبریل ﷺ نے
 کہا حضرت محمد ﷺ ہیں۔
 پوچھا گیا آپ کی طرف بھیجا گیا تھا؟
 جبریل نے کہا ہاں! کہا گیا جبریل
 بہت اچھا ہے آیا اب جو تشریف لایا۔
 تشریف لائے، پس دروازہ کھولا گیا
 جب میں اندر داخل ہوا تو اس وقت
 مجھے حضرت موسیٰ ﷺ ملے۔
 حضرت جبریل ﷺ نے عرض
 کیا کہ یہ حضرت موسیٰ ﷺ ہیں
 ان کو سلام کہیے۔ میں نے حضرت
 موسیٰ ﷺ کو سلام کہا جب کہ انہوں
 نے جواب دیا۔ پھر حضرت موسیٰ ﷺ
 بولے مرحبا نیک بھائی، نیک نبی! پھر

جب اس سے آگے چلا گیا تو وہ رو پر
 پوچھا گیا آپ کس چیز نے زلایا حضرت
 موسیٰ ﷺ نے فرمایا میں اس لیے
 رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان
 پیغمبر بنا کر بھیجا گیا جس کی امت کے
 لوگ میری امت کی نسبت زیادہ
 جنت میں داخل ہوں گے۔

الجنة من امته اكثر
 مما يدخلها من امتي.
 (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵)

Ḥaḍrat Anas bin Mālik رضي الله عنه has stated, in the account of the Ascension to the Heavens (*M'irāj*) of the Holy Prophet ﷺ, that he ﷺ said: "I was taken higher until we reached the Sixth Heaven. There the Archangel Gabriel عليه السلام had the gate opened and he was asked as to who he was. The Archangel Gabriel عليه السلام replied: 'I am the Archangel Gabriel عليه السلام.' Then he was asked as to who was accompanying him. The Archangel Gabriel عليه السلام replied: 'The Holy Prophet Muḥammad ﷺ.' The Archangel Gabriel عليه السلام was asked: 'Has the Holy Prophet Muḥammad ﷺ been invited here?' 'Yes!' he replied. To this the voice said: 'You are Most Welcome!' The gate of Sixth Heaven was opened for us. When I entered, I met the Prophet Mūsā (Moses) عليه السلام. The Archangel Gabriel عليه السلام said: 'This is Prophet Mūsā عليه السلام, please greet him (i.e. by saying *Salām*).' I greeted the Prophet Mūsā عليه السلام with *Salām* to which he replied by saying: 'Welcome! O righteous brother and righteous Prophet ﷺ.' As I passed by him, he cried. He was asked what it was that had made him cry. The Prophet Mūsā عليه السلام replied: 'I am crying because a young Prophet (ﷺ) has been sent after me, whose followers (*Ummah*) will enter Paradise in greater number than my followers (*Ummah*).'"

-(*Tafsīr Ibn Kathīr V3, P8*)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْهُمْ وَعَنْ مَن تَلَاهُمْ
 وَرَبَّهُمْ وَخَلْقِكَ وَجَمِيعِ فَخْرِكَ وَمَا دَعَاكَ إِلَيْكَ اسْتَفْضَلَهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا الْاَكْرَمُ

ہمارے سردار سے زیادہ بزرگی والے درود و سلام بھیجے لا الہ الا انت

Sayyidunā AL-AKRAMU
 (Our Leader,
 the Most Honourable صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے کئی اصحاب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور اقدس ﷺ تشریف لے آئے جب ان کے قریب ہوئے تو انہیں گفتگو کرتے سنا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کی باتوں کو اچھی طرح سُن لیا۔ ان میں سے کسی نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجا ان الله اتخذ من خلفه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا

میں سے اپنے خلیل کو پونا یعنی حضرت
ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کو اپنا خلیل بنایا۔
دوسرے نے کہا یہ حضرت موسیٰ
عَلَيْهِ السَّلَام کی اللہ سے ہم کلامی سے
زیادہ تعجب کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ان سے کلام کیا۔ تیسرے نے
کہا اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام للہ
کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ چوتھے
نے کہا حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو
اللہ نے برگزیدہ کیا ہے جناب لہ
طَلُّوْا عَلَیْهِ یہ سن کر باہر نکلے پس
تشریف لے آئے اور سلام کر کے
ان سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی
باتیں اور تمہارا ان امور پر اظہار تعجب
سنا کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام
خلیل اللہ ہیں بے شک وہ ایسے
ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام
نجی اللہ ہیں۔ بیشک وہ ایسے ہی
ہیں۔ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام اللہ کا
کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ بیشک
ایسے ہی ہیں۔ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام
کو اللہ نے برگزیدہ کیا، بیشک وہ

و قال اخر ما ذا
باعجب من كلام موسى
كلمه تكليما وقال
اخر فعيسى كلمة الله
وروحه وقال
اخر آدم اصطفاه
الله فخرج عليهم
فسلم وقال قد سمعت
كلامكم وعجبكم
ان ابراهيم خليل الله
وهو كذلك وموسى
نجى الله وهو كذلك
وعيسى روحه وكلمته
وهو كذلك وادم
اصطفاه الله وهو
كذلك الا وانا
حبيب الله ولا فخر
وانا حامل لواء الحمد
يوم القيامة ولا فخر
وانا اول شافع
واول مشفع يوم
القيامة ولا فخر

ایسے ہی ہیں۔ اور میں اللہ کا حبیب
 ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں قیامت
 کے روز لوہار حمد اٹھانے والا ہوں اور
 یہ میں فخر سے نہیں کہتا اور میں قیامت
 میں سب پہلا شافع اور شافع ہوں گا
 اور اس پر کوئی فخر نہیں اور میں پہلا شخص
 ہوں گا کہ بہشت کا حلقہ ہلاؤں گا تو
 اللہ تعالیٰ میرے لیے کھولے گا اور مجھے
 بہشت میں داخل کرے گا اور اس وقت
 میرے ساتھ غریب مومن ہونگے اور کوئی
 فخر نہیں اور میں اولین اور آخرین میں
 سب سے بڑھ کر بزرگی والا ہوں اور کوئی
 فخر نہیں۔

وانا اول من
 يحرك حلق الجنة
 فيفتح الله لي
 فيدخلنيها و معي
 فقراء المؤمنين ولا
 فخر و انا اكرم
 الاولين والآخرين
 ولا فخر -

(جامع الترمذی
 ج ۲ - ص ۲۰۲)

Ḥaḍrat Ibn 'Abbās رضي الله عنه has stated that once many of the Companions of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ were sitting and waiting for him. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ came out and as he approached them, he heard them conversing. One among them was saying: "It is wonderful to (know) that it was Prophet Ibrāhīm عليه السلام whom Allāh the Almighty chose as His friend (*Khalīl*)."

Another was saying: "Is it not also wonderful that the Prophet Mūsā (Moses) عليه السلام spoke to Allāh the Almighty directly (*Kallamahū taklīma*)?"

The third said: "The Prophet 'Isā (Jesus) عليه السلام was, in fact, the 'word' (*Kalīma*) of Allāh the Almighty and His 'spirit' (*Rūḥ*)!"

The fourth said: "Surely Allāh the Almighty had

exalted (*Istafā*) Prophet Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ the most of all."

The Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ came out to them, greeted them with *Salām* and said: "I have heard all that you have spoken and noted your amazement; that is, indeed, Prophet Ibrāhīm عَلَيْهِ السَّلَامُ was the friend (*Khalīl*) of Allāh the Almighty, as you say. Prophet Mūsā عَلَيْهِ السَّلَامُ was an intimate friend of Allāh the Almighty; that is, indeed, true; Prophet Jesus ('Isā) عَلَيْهِ السَّلَامُ was the Almighty Allāh's 'word' (*Kalīma*) and 'spirit' (*Rūh*); that is also true. Prophet Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ was exalted by Allāh the Almighty and that too is correct. But as for me, I am the the most beloved of Allāh the Almighty (*Habīb Allāh*), and I do not boast about it. On the Day of Judgement, I shall be carrying the banner of the Almighty Allāh's praise and yet I am not proud. I will be the first intercessor and the first one whose intercession will be answered, and yet I show no pride. I will be the first one to knock the chain (at the gate) of Paradise and Allāh the Almighty will open it up for me. I shall enter Paradise with all my faithful poor and I do not show any pride; I am the most honoured among all those who have passed away and all those who shall come in the future, and I am not proud."

-(*Tāmi'* Al-Tirmidhi V2, P202)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ رَوَاتِ
 سَهَ كَهْ جَبْ حَسْرًا قَدَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 پَس مَعْرَاجِ كِي رَاتِ بَرَاقِ مِيشِ كِيَا
 كِيَا تَوُوهُ بَدَكَتَا تَهَا پِهْرَ حَضْرَتِ جِبْرِيْلِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي اَسَ فَرَمَا يَتَجَهَّ كُوْنَسِي
 چِيْزِ اِسْ بَدَكُنِي پُرَا كَاتِي هِي؟ اَللّٰهُ
 كِي قَتْمِ اَسْ سِي بَرُهْ كَر اَللّٰهُ تَعَالَى
 كِي نَزْدِيْكَ بَزْرُگِ تَجْهِي پُرِ پِيْلِي سَوَارِ

عَنْ انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتى
 بالبراق ليلة أسرى
 به مسرجاً ملجماً ليركبه
 فاستصعب عليه فقال
 له جبريل ما يحملك
 على هذا فوالله ما ركبتك
 قط أكرم على الله

نہیں ہوا، تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔



منہ قال فارض عرقا

۱. رواہ احمد - تفسیر ابن کثیر ج - ۳ - ص ۳

Hadrat Anas رضی اللہ عنہ has reported that when, on the Night Journey of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ to the Heavens, the *Burāq* (an animal larger than a donkey and smaller than a horse) was presented to him (ﷺ) for riding, it was difficult to restrain the *Burāq* (due to his speed). The Archangel Gabriel علیہ السلام asked: "What made you act like that? By Allāh the Almighty, no rider more honourable (*Akram*) in the sight of Allāh the Almighty than the Almighty Allāh's Apostle ﷺ has ever mounted you." At this the *Burāq* became wet with perspiration.

-(Narrated by Ahmad, Tafsir Ibn Kathir V3, P4)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَ اللَّهُ لَأَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا حَقَّكَ الَّذِي لَا تَقْبَلُ الْأَلْمَةَ وَالْحَقُّ أَيْبُ الْأَصْحَابِ وَحَقِّرْ مَعْدُونَكَ مَلَكُومًا أَنْ
 تَمُدَّ عِلْقَتَكَ وَيُجْعَلَ نَسَبُكَ وَيَمْدُدْ عَمَّا يَكْفُرُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَدْرِكُ الْكُفْرَ الْغَيْبُ وَالْأَمْرُ الْبَرُّ وَالْحَقُّ

سَيِّدِنَا
 أَكْرَمُ الْأَوْلِيَاءِ
 وَآخِرِنَا
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار اگلے پچھلوں میں سب سے غریبے درویش اور سب سے اعلیٰ

Sayyidunā AKRAM-UL-AWWALĪN
 WAL-ĀKHIRĪN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Honourable of All
 the Former And the Last صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ہجرت
 اقدس ﷺ کے انتظار میں بیٹھے
 ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور ﷺ
 باہر تشریف لائے، جب ان کے قریب
 ہوئے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے سنا آپ
 نے ان کی باتوں کو اچھی طرح سُن لیا
 ان میں سے کسی نے کہا بے تعجب
 کی بات ہے اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق
 میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
 قال جلس ناس من
 اصحاب رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظرونه
 قال فخرج حتى اذا دنا
 منهم سمعهم يتذكرون
 فسمع حديثهم فقال
 بعضهم عجباً ان الله
 اتخذ من خلقه خليلاً
 اتخذ ابراهيم خليلاً

وقال آخر ماذا باعجب
من كلام موسى عليه السلام
كلمه تكليما وقال
آخر في عيسى عليه السلام
كلمة الله و روحه
وقال آخر آدم عليه السلام
اصطفاه الله فخرج
عليهم وسلم وقال
قد سمعت كلامكم
وعجبكم ان ابراهيم
خليل الله وهو كذلك
وموسى نبي الله وهو
كذلك وهو عيسى
روحه وكلمته وهو
كذلك و آدم اصطفاه
الله وهو كذلك
الا و انا حبيب الله و
لا فخر و انا حامل
لواء الحمد يوم القيمة
ولا فخر و انا اول
شافع و اول مشفع
يوم القيمة ولا فخر

اپنا خلیل مقرر فرمایا۔ اور دوسرے نے
کہا یہ حضرت موسیٰ عليه السلام کے ساتھ
مبہ کلامی سے زیادہ تعجب کی چیز نہیں
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام
کیا ہے اور تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ
عليه السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اس کی روح
میں۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت آدم عليه السلام
کو اللہ سبحانہ نے سب کے اوپر بزرگی عطا
فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
انکے پاس تشریف لائے پہلے سلام کہا
پھر فرمایا میں نے تم لوگوں کی سب
باتوں اور تعجب کو سنا کہ ابراہیم
اللہ کے خلیل میں تحقیق تادہ ایسے ہی
میں۔ موسیٰ نے اللہ سے بتائیں کہ
بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ علیہ
کلمہ اللہ اور اس کی روح میں بیشک
وہ ایسے ہی ہیں۔ آدم کو اللہ تعالیٰ
نے برگزیدہ بنایا، بیشک وہ ایسے ہی
میں۔ مگر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں
اللہ کا حبیب ہوں اور میں فخریہ
نہیں کہہ رہا اور قیامت کے دن حمد
کا جہنڈا میں ہی اٹھاؤں گا، یہ میں

فخر سے نہیں کتا اور روزِ قیامت
 میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے
 والا ہوں اور سب سے پہلے میری عیادت
 قبول بارگاہِ ہوگی میں فخر سے نہیں کہتا
 اور سب سے پہلے میں بہشت کے
 دروازے کو ہلاؤں گا اور اللہ سبحانہ
 میرے لیے اس کو کھولے گا اور مجھے نزل
 فرمائیں گے میرے ساتھ فقرہ اور مومن
 بھی داخل ہوں گے میں فخر سے
 نہیں کتا اور میں ہی پہلی نسلوں کے لیے
 اور آئندہ کی تمام نسلوں کے لیے باعث
 فخر اور مکرم ہوں اور کوئی فخر نہیں۔

و انا اول من يحرك
 حلق الجنة فيفتح
 الله لي فيدخلنيها و
 معي فقراء المؤمنين
 و لا فخر و انا اكرم
 الاولين و الاخرين
 و لا فخر -

(جامع الترمذی ج ۲ - ص ۲۰۲)

Hadrat Ibn 'Abbās رضي الله عنه has stated that once many of the Companions of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ were sitting and waiting for him. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ came out and as he approached them, he heard them conversing. One among them was saying: "It is wonderful to (know) that it was Prophet Ibrāhīm عليه السلام whom Allāh the Almighty chose as His friend (*Khalīl*)."

Another was saying: "Is it not also wonderful that the Prophet Mūsā (Moses) عليه السلام spoke to Allāh the Almighty directly (*Kallamahū taklīma*)?"

The third said: "The Prophet 'Isā (Jesus) عليه السلام was, in fact, the 'word' (*Kalīma*) of Allāh the Almighty and His 'spirit' (*Rūh*)!"

The fourth said: "Surely Allāh the Almighty had exalted (*Iṣṭafā*) Prophet Adam عليه السلام the most of all."

The Almighty Allāh's Apostle ﷺ came out to them, greeted them with *Salām* and said: "I have heard all that you have spoken and noted your amazement; that is, indeed, Prophet Ibrāhīm عليه السلام was the friend (*Khalīl*) of Allāh the Almighty, as you say. Prophet Mūsā عليه السلام was an intimate friend of Allāh the Almighty; that is, indeed, true; Prophet Jesus ('Isā) عليه السلام was the Almighty Allāh's 'word' (*Kalima*) and 'spirit' (*Rūh*); that is also true. Prophet Adam عليه السلام was exalted by Allāh the Almighty and that too is correct. But as for me, I am the the most beloved of Allāh the Almighty (*Ḥabīb Allāh*), and I do not boast about it. On the Day of Judgement, I shall be carrying the banner of the Almighty Allāh's praise and yet I am not proud. I will be the first intercessor and the first one whose intercession will be answered, and yet I show no pride. I will be the first one to knock the chain (at the gate) of Paradise and Allāh the Almighty will open it up for me. I shall enter Paradise with all my faithful poor and I do not show any pride; I am the most honoured among all those who have passed away and all those who shall come in the future, and I am not proud."

-(*Jāmi' Al-Tirmidhi V2, P202*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْأَبَا لِهَذَا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَلَكَ
 رُبُّهُ وَعَلَى مَنْ نَشَرَهُ وَمِنَ الْبَشَرِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ

سَيِّدِنَا أَكْرَمُ النَّاسِ

ہمارے سردار تمام لوگوں سے مغز ہستی دُود و سلام بھیج اللہ پر

Sayyidunā AKRAM-UN-NĀS ﷺ
 (Our Leader
 the Most Noble of All Mankind ﷺ)

حضرت عمرہ ؓ سے روایہ
 ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ
 ام المؤمنین ؓ سے پوچھا کہ
 حضور اقدس ﷺ گھر میں کیسے
 رہتے تھے تو حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا کہ
 حضور اقدس ﷺ تمام
 لوگوں سے نرم طبیعت تھے اور تمام
 جہان سے بزرگ ہستی تھے اور اپنی
 ہنس مکھ، تلبسم فرمانے والے تھے۔

عن عمرہ ؓ
 قالت قلت لعائشة ؓ
 كيف كان رسول الله
 ﷺ في اهله قالت
 كان الين الناس
 واكرم الناس وكان
 ضحكا باسما -
 (رواه ابن عساکر
 تاریخ ابن کثیر ج ۶ ص ۴۳)

Hadrat 'Amra ؓ has narrated that she asked Hadrat 'A'isha ؓ how the Almighty Allāh's

رَبَّنَا نَقْبِلْ مِمَّا آتَاكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

Apostle ﷺ lived in his home. She replied: "The Almighty Allāh's Apostle ﷺ was the most gentle and most noble (*Akram*) of all people, and had a cheerful, smiling face."

-(Narrated by Ibn 'Asākar, *Tārīkh Ibn Kathīr* V6, P44)

حضرت اقدس ﷺ اکرم الناس
 اور اشجع الناس کیسے تھے ہوں کیونکہ آپ
 کا توکل بڑا اونچا تھا آپ سے بڑھ کر کوئی
 متوکل نہیں اور اللہ کے رزق اور نصرت
 پر آپ ﷺ کو کامل بھروسہ تھا
 اور آپ اپنے تمام امور میں اللہ سے
 اعانت طلب کرتے تھے۔

فكيف لا يكون
 اکرم الناس و اشجع الناس
 وهو المتوكل الذي
 لا اعظم منه في
 توكله - الواثق برزق
 الله و نصره المستعين بربه
 في جميع امره - (تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ٢٣)

And how could he not be the Most Honourable (*Akram*) and Most Courageous of all mankind when he had utmost trust in Allāh the Almighty? No-one surpassed him in his trust and absolute faith in Allāh the Almighty, when it came to his livelihood and victory. He sought the Almighty Allāh's assistance in all affairs of his life.

-(*Tārīkh Ibn Kathīr* V6, P43)

حضرت ابو سعید خدری
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے فتح خیبر کے دن فرمایا کہ قسم ہے
 مجھے اس ذات کی جس نے حضرت
 محمد (ﷺ) کے چہرہ مبارک کو
 عزت بخشی، میں جھنڈا ایسے آدمی کو
 دوں گا جو میدان جنگ سے کبھی نہ

عن ابى سعيد الخدرى
 رَوَى اللهُ عَنْهُ قَالَ ان رسول الله
 ﷺ قال والذى
 كرم وجهه محمد لا عطيتها
 رجلا لا يفرهاك يا على
 فانطلق حتى فتح الله خيبر
 وفدك. (الحديث)

بھاگے گا۔ اے علیؑ! آ۔ پھر حضرت علی
 ﷺ (جھنڈا لے کر آگے تھے کہ
 اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خیر اور فداک
 فتح کروادیا۔

۱۔ مسند امام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۶۰

Hadrat Abu Sa'īd Al-Khudri رضی اللہ عنہ has reported the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying on the day of the Battle of *Khaybar*: "I swear by Allāh the Almighty, Who has honoured (*karrama*) the blessed face of the Holy Prophet Muḥammad ﷺ, that I shall entrust the flag only to the one who will never flee from the battlefield. O 'Ali رضی اللہ عنہ, you take it!" Holding the flag, Hadrat 'Ali رضی اللہ عنہ advanced until with the help of Allāh the Almighty he conquered both *Khaybar* and *Fadak*.

-(Musnad Imān Ahmad bin Hanbal V3, P16)


حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ کے پاس ایک آدمی
 آیا جو آپ سے قرض کی رقم طلب کر رہا
 تھا۔ آپ نے اس سے ادھا دست
 بھجوریں ادھار لی تھیں وہ ادھا رکا
 تقاضا کرنے آیا تو آپ نے اسے پورا
 دست بھجوریں عنایت فرمائیں اور ساتھ
 ہی فرمایا کہ یہ نصف دست تو تمہارا حق ہے
 اور یہ دوسرا نصف دست بطور بخشش ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
 اتی رجل النبی ﷺ
 یسألہ فاستسلف لہ
 رسول اللہ ﷺ فجاہ
 الرجل یتقاضاہ فاعطاہ
 وسقا وقال نصفہ
 قضاء ونصفہ نائل۔
 (نسیم الریاض ج ۲ - ص ۲۲۶)

Hadrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ has narrated that a man came to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ and demanded that he pay back a loan. The Almighty

Allāh's Apostle ﷺ had borrowed half a measure of dates from him, for which he was now asking payment. The Almighty Allāh's Apostle ﷺ gave him a full measure of dates, saying: "Half the measure is your right, and the other half is a present to you."

-(*Nasīm Al-Riyāḍ V2, P41 & 42*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ أُمَّةً لَكَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَلَى مَنْ يَتَّبِعُهُمْ
 وَرَدَّ عَنِكَ وَرَدَّ عَنِكَ وَرَدَّ عَنِكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدُكُمْ أَكْرَمُ النَّاسِ

ہمارے سردار معزز ترین قبیلے والے درود ملا بھیجے لا الہ الا انت

Sayyidunā
 AKRAM-UN-NĀSI ḤAYYAN ﷺ
 (Our Leader
 of the Most Honourable Tribe ﷺ)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا:
 قبیلوں میں معزز گھرانے والے
 معزز سرداروں کے والے میں سید

قال حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
 واکرم حنیاً فی البیوت اذا انتی
 واکرم حبد البطحیاً یسود
 (البدایة والنہایة لابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۱)

Ḥaḍrat Ḥassān bin Thābit رضی اللہ عنہ said:
 "He ﷺ is from the most noble quarter,
 Rising from the household
 Of the most noble grandfather,
 The chief of Baḥā."
 -(Al-Bidāya wa Al-Nihāya by Ibn Kathīr V5, P281)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں

عن انس رضی اللہ عنہ قال
 قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

میں فرقے (جن انس) بنے تو اللہ نے
 مجھ کو بہترین فرقے میں پیدا
 فرمایا۔ میں اپنے ماں باپ کی پشت
 سے نکالا گیا ہوں۔ مجھے مانہ جاہلیت
 کی کوئی چیز نہیں پہنچی اور میں نکاح سے
 چسلا آ رہا ہوں اور حضرت آدم
 ﷺ سے لے کر میرے آباؤ اجداد
 میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، حتیٰ کہ
 میں اپنے ماں باپ کی طرف منتقل
 ہوا۔ میں تم سب سے بہتر بن خاندانِ نالا
 ہوں اور میں تم سب سے بہترین باپ
 کا بیٹا ہوں۔

ما افترق الناس فرقتين
 الا جعلني الله في خيرهما
 فاخرجت من بين ابوي
 فلم يصبنى شيء من عهد
 الجاهلية وخرجت
 من نكاح ولم اخرج
 من سفاح من لدن آدم
 حتى انتهت الى ابي و
 امي فانا خيركم نسبا
 وخيركم ابا -

(رواه البيهقي في الدلائل - منتخب
 كنز العمال حاشية مسند الامام
 احمد بن حنبل ج ۳ - ص ۱۳۳)

Ḥadrat Anas رضي الله عنه has reported the Almighty Allāh's
 Apostle ﷺ as saying: "When the creation was
 divided into groups (i.e. Jinns and Humankind), Allāh
 the Almighty raised me among the best group. I was
 begotten of my parents (and yet) none of the vices of
 the Age of Ignorance (*Jāhiliyya*) befell me. I was born
 in wedlock and none of my forefathers, from Ḥadrat
 Adam ﷺ down to my own mother and father,
 has ever committed adultery. So, I am the best among
 you in descent and lineage."

-(It has been related by Al-Baihaqi in Al-Dalā'il; Muṭtaḥab Kanz
 Al-'Ummāl, on the Margin of Musnad by Inān Aḥmad bin Ḥanbal
 V4, P233)

حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے

عن ابی ہریرۃ رضي الله عنه

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ڑایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جب سے میں حضرت آدم ﷺ کی پشت سے نکلا ہوں، مجھے کسی بدکار عورت نے نہیں جنا (یعنی میری دادی نانی میں سے کوئی بدکار نہ تھی) اور ہمیشہ بڑائی میں امتیں میرا مقابلہ کرتی رہی ہیں حتیٰ کہ میری پیدائش عرب کے فضل قبیلوں ہاشم اور زہرہ میں ہوئی۔

قال قال رسول الله
 ﷺ ما ولدني
 بنى قط منذ خرجت
 من صلب آدم ولم تنزل
 تنازعنى الامم كائناً
 عن كابر حتى خرجت
 من افضل حين
 من العرب "هاشم وزهرة"
 (رواه ابن عساکر - سبل الهدى ج 1 ص 24)

Hadrat Abu Huraira رضي الله عنه has narrated the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as saying: "Ever since I descended from Hadrat Adam's (عليه السلام) body, no vile, sinful woman has ever begotten me. That is, none among my grandparents was vile. Nations and tribes have always vied with me for greatness, until I was born among the most honoured to Arab Tribes, the Banu Hāshim and Banu Zuhra."

-(Related by Ibn 'Asākar, Subul Al-Hudā V1, P277)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعَجِّزْ يَدَيْهِ وَعَلِّمْ سَلَامَةَ آلِهِ
 وَوَعْدَ وَعْثَانِهِ وَعِظْ نَسْلَهُ وَمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبُ إِلَّا أَنْزَلَ الْأَكْرَامَ الْأَكْرَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ الْأَنْبِيَاءَ

سَيِّدِنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ

ہمارے سردار آدم کی اولاد میں بزرگ ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

Sayyidunā
 AKRAMU WULDE-ĀDAM صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader Most Distinguished of the
 Progeny of Adam صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا قیامت کو جب لوگ تمہیں گے میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب لوگ وفدین کر جائیں گے اور خوشخبری سنائے والا ہوں گا جبکہ وہ یا رسول اللہ کے سونے اس من حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اپنے رب کے نزدیک بنی آدم کی اولاد میں میں سب سے مکرم ہوں اور اس پر کوئی

عن انس بن مالك
 رَوَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا اِذَا بَعَثُوا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا وَفَدُوا وَاَنَا مَبْشَرُهُمْ اِذَا يَسُّوْا لِهٰٓؤِا اِخْرٰجِ يَوْمِئِذٍ بِيَدِي وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلٰى رَجْبٍ وَلَا فَخْرَ

فخر نہیں، یہ حدیث حسن غریبہ
 هذا حدیث حسن غریب۔
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰۱)

Hadrat Anas bin Mālik رضي الله عنه has narrated the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ as saying: "I shall be the first of all people to be raised on the Day of Judgement, and I shall be their spokesman, when they appear before Allāh the Almighty in the form of a delegation. I shall be the bringer to them of glad-tidings when they will be in despair. The banner of praise on that day will be in my hand. I shall be the most distinguished of all mankind in the sight of Allāh the Almighty. And yet, I am not proud.

(This Hadith is sound but rare).

-(Jāmi' Al-Tirmidhi V2, P201)

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ جس رات حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو
 آپ کے واسطے براق لایا گیا
 تاکہ آپ اس پر سوار ہوں جس کو
 کلام دی گئی تھی اور اس پر زین بھی
 رکھی گئی تھی، تو وہ بے قابو ہو گیا حضرت
 جبریل نے اسے کہا تو حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتا ہے
 (حالانکہ) تجھ پر اب تک فی ایس شخص
 سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک آپ سے
 بزرگ و محترم ہو۔ یس کو وہ سپید سپید کر گیا

عن انس رضي الله عنه
 ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى
 بالبراق ليلة أسرى
 به ملجماً مسرحاً
 فاستصعب عليه فقال
 له جبرئيل ابع محمد
 تفعل هذا فما ركبك
 احد اكرم على الله
 منه قال فارفض عرقاً.

جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰۱

مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۶۵

Hadrat Anas رضي الله عنه has reported that on the Night Journey of the Almighty Allāh's Apostle ﷺ to the Heavens the *Burāq* (an animal larger than a donkey and smaller than a horse) was presented to him for riding. The *Burāq* was decorated, bridled, and saddled for the Almighty Allāh's Apostle ﷺ to ride on. But the *Burāq* went out of control. The Archangel Gabriel عليه السلام asked him: "You behave like this with Muḥammad ﷺ? No rider more noble in the sight of Allāh the Almighty than him ﷺ has ever mounted your back. " At these words the *Burāq* became wet with perspiration.

- (Jāmi' Al-Tirmidhi V2, P141; Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal V3, P164)


حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبے میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اقیامت کے روز میں سب سے پہلے قبر سے باہر نکلوں گا اور جب لوگ باگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو میں انکا قائد بنو گا جب وہ چپے چائیں گے تو میں انکا خطیب بن جاؤں گا، ہوں گا جب روکے جائیں گے تو میں ہی انکا سفاکش بنوں گا، ہوں گا جب مایوس ہوں گے تو میں ہی انکو خوشخبری دینے والا ہوں گا اور بزرگی اور اختیار کی کنجشیاں اس روز میرے ہی ہاتھ میں ہوں گی اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم کے رکن ہوں میرے پاس انرا خادم ایسے گھوم رہے ہوں گے گویا پوشیدہ امانت میں یا کیمبر کے موتی

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ انا اولهم خروجاً و انا قائلهم اذا وفدوا و انا خطيبهم اذا انصتوا و انا مشقهم اذا حبسوا و انا مبشرهم اذا اسوا الكرامة و الفنايح يومئذ بيدي و انا اكرم ولد آدم على ربي يطوف على الفخام كاهم بيض مكنون اولولو منشور - (سنن الدارمی ج ۲ ص ۲۶)

Hadrat Anas رضي الله عنه narrated the Almighty Allāh's Apostle ﷺ as having said: "On the Day of Judgement I shall be the first one to come out of the

grave, and I will be the leader of people when they appear before Allāh the Almighty as a delegation. I shall be their spokesman when they are made to listen. I shall be their intercessor when they are held back. (It will be my intercession alone that will be accepted). I shall be the bringer to them of glad-tidings, when they are in despair. The honour and the keys of (authority) will be in my hands. I am the most distinguished among the progeny of Ḥaḍrat Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ in the sight of Allāh the Almighty. On that day thousands of attendants will hover around me. They will be so pure, white and innocent, as if they were (delicate) eggs closely guarded, (Holy Qur'ān 37: 49) or scattered pearls."

-(Sunan Al-Dārimi VI, P26)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَدِّدْ عَلَيْنَا مِنْ مَلَكُوتِكَ الْبَرَكَاتِ وَوَجِّعْ لِقَائِكَ وَبَشِّرْ بِكَ وَمَا دَعَاكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

سَيِّدِنَا الْإِكْلِيلُ

ہمارے سردار تاج درود سلام بھیجے اللہ آپ

Sayyidunā AL-IKLĪLU ﷺ
 (Our Leader, the Crown ﷺ)

کیونکہ آپ نبیوں کے سردار
 ہیں اور صفتوں کے سردار ہیں یہ نام
 آپ کی شرافت اور بلند مقامی کی وجہ
 سے رکھا گیا ہے۔

لانہ تاج
 الانبياء و رأس الاصفياء
 فسمي به لشرفه وعلوه۔
 (شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ۱۳)

This is because he ﷺ is the sovereign over all the Holy Prophets of Allāh the Almighty (Peace be upon them) and chief of all the pure ones; this title has been given to him for his greatness and honour.

-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladūniya by Al-Zarqāni V3, P123)

حضرت داؤد علیہ السلام نے
 زبور میں فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ نے عرب سے تعریف
 کیا گیا تاج ظاہر کیا اور صیفون کا

قال داؤد علیہ السلام
 ف زبور:
 ان الله اظهر من
 صيفون اكليلاً محموداً

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

معنی عرب ہے اور اکلیل نبوت
کو کہتے ہیں اور محمود سے مراد
ضور اقدس محمد ﷺ مراد ہیں

وصیفون العرب
والاکلیل النبوة
ومحمود هو محمد ﷺ
(اعلام النبوة للماوردي ص ۱۳۶)

Prophet Dā'wūd (David) عَلَيْهِ السَّلَامُ mentions in the Holy Book of Psalms (*Zabūr*): "Allāh the Almighty illuminated from among the *Ṣayfūn* a crown (*Iklīl*) most praised (*Maḥmūd*)". *Ṣayfūn* means Arabs, *Iklīl* means (the crown of) Prophethood and *Maḥmūd* (the Praised one) is of course Muḥammad ﷺ.
- (*A'lām Al-Nubuwwah* by Al-Māwardī P136)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ لَكُمْ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيُحْيِيكُمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ وَعَنْهُمْ وَعَلَى كُلِّ
 وَجْهِ وَعَلَيْكَ وَجْهِ قَلْبِكَ وَبَشْرَتِكَ وَمَنْ دَاوَلَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

سَيِّدِنَا الْأَمْرَاءُ

ہمارے سربراہ پیشوا دروڑ مسلمان بھیجے اللہ پر

Sayyidunā AL-IMĀMU ﷺ
 (Our Master, the Leader ﷺ)

اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ” اور ہمیں مقتدیوں کا امام
 بنا دے۔“

اشارہ الی قولہ ۱
 ” وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
 اِمَامًا “ (سورۃ الفرقان ۴۲)

Reference to the Holy Qur'an:

....And give us (the grace)
 To lead the righteous.
 -(Al-Furqān 25:74)

اور اشارہ ہے اس آیت کی طرف:
 ” ہم قیامت کے دن لوگوں
 کو ان کے اماموں کے ساتھ
 بلائیں گے۔“

و اشارہ الی قولہ :
 ” یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ
 اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج “
 (سورۃ نجم اسرائیل ۴۱)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین یا رب العالمین ط

Reference to the *Holy Qur'an*:

On the day We shall call
Together all human beings
With their (respective) Imāms....

-(*Banī Isrā'īl* 17:71)

حضرت حسان بن ثابت رضي الله عنه نے فرمایا:
"آپ لوگوں کے رہنما ہیں اور سیدھا
رستہ دکھانے کیلئے جہدِ کربوا لے رہے ہیں
اور اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں
گے تو سعادت پائیں گے۔"

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

امام لهم يهديهم
الحق جاهداً
معلم صدق ان
يطيعوه يسعدوا

(تاریخ ابن کثیر ج ۵ - ص ۲۸۰)

Ḥadrat Ḥassān bin Thābit رضي الله عنه has said: "People have a Leader (*Imām*) (in the form of Holy Prophet Muḥammad صلی اللہ علیہ وسلم) who endeavours his utmost in showing them the Truth; he is the teacher of Truth, so if they follow him they will be blissful."

-(*Tārīkh Ibn Kathīr* V5, P280)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَ اللَّهُ لَخَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ
الْمُرْسَلِ وَسَلَّمَ وَأَرْكَعَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَخَيْرِنَا مُحَمَّدٍ فِي السَّحَابِ الْأَعْيُنِ وَعَلَى إِلِهِ وَأَصْفَائِهِ وَخَيْرِ مَعْدُونٍ عَلَى سَلَامٍ أَنْ
وَعِنْدَ خَلْقِكَ وَجْهٌ تَسْبُحُكَ وَيُنَادِيكَ وَيُنَادِيكَ بِاسْمِكَ اسْتَشْفَاءً لِلَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ

سَيِّدِنَا إِمَامِ الْخَيْرِ

ہمارے سردار بھلائی کے پیشرو درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā IMĀM-UL-KHAIR
(Our Master, the Leader of Good صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم حضور اقدس صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر درود بھیجو تو اچھا درود بھیجو تمہیں پتہ نہیں کہ شاید یہ درود آپ کے ہاں پیش ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی دیکھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ”اے اللہ تو اپنے درود اور رحمتیں اور برکتیں بھیج رسولوں کے سردار پر جو مسکینوں کے امام اور غلبیوں کے ختم کرنے والے ہیں حضرت محمد صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں جو بھلائی کے

عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَانْكَرُوا لَا تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَامَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

امام نبی کے قائد اور رحمت کے رسول میں
 اے اللہ! ان کو تمام محمود نصیب فرما!
 جس کا تو نے وعدہ فرمایا جس پر
 اگلے اور پچھلے رشک کریں گے۔

الرحمة اللهم ابعثه مقاما
 محموداً يغبط به الاولون
 والآخرين.
 (سنن ابن ماجه ص ۶۵)

Ḥaḍrat Ibn Mas'ūd رضي الله عنه has said: "When you say salutations to the Almighty Allāh's Apostle ﷺ, make it your best of salutation, as you do not know that this very salutation might be offered to him."

They said: "Please teach it us." He said: "Recite after me, O Lord! Send Your blessing, grace and mercy upon the Master of Apostles, the leader (*Imān*) of the pious and the Seal of the Prophets. He is Muḥammad ﷺ, Your servant and Apostle, the leader of goodness (*Imām ul-Khair*), and the Prophet of Mercy. O Allāh the Almighty, grant him the praised position (*Maqām Al-Maḥmūd*, that You have promised) so that those who have gone before and those who are to follow may take pride in him."

-(Suman Ibn Māja P65)

قیامت کے دن میں تم
 لوگوں کا امام ہوں گا۔

اذا كان يوم القيمة
 كنت امام الناس.
 (اداء احمد - نسيم الرياض ص ۴۲)

On the Day of Judgement, I will be the leader (*Imām*) of all people.

-(It has been related by Aḥmad, *Nasīm Al-Riyād V2, P402*)

حضرت ربیع بن ابو عبد الرحمن تم ام منین
 حضرت سلمہ رضي الله عنها سے روایت
 کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے
 فرمایا بس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے

عن ربیعة بن ابی
 عبد الرحمن عن ام سلمة
رضي الله عنها زوج البتی ﷺ
 ان رسول الله ﷺ یتیم

وہ جیسا کہ اسکو اللہ نے حکم کیا ہے ،
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہہ کر کے
 لے لے اللہ مجھ کو اس مصیبت میں اجر دے
 اور اس سے بہتر نیک لہ عنایت فرما
 تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے حق
 ایسا ہی کریگا حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 کہتی ہیں جب (میرے بھائی) حضرت
 ابولہب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے وفات پائی تو میں
 نے یہی دعا پڑھی پھر میں نے اپنے نبی
 میں کہا کہ حضرت ابولہب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 کون بہتر ہوگا۔ سو اللہ نے اس کے لیے
 میں اپنا رسول عنایت فرمایا۔ آپ نے
 ام سلمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے نکاح فرمایا۔

قال من اصابته مصيبة
 فقال كما امره الله
 انا لله وانا اليه راجعون
 اللهم اجرني في مصيبتى
 واعقبني خيرا منها
 الا فعل الله ذلك
 به قالت ام سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 فلما توفي ابوسلمة قلت
 ذلك ثم قلت
 ومن خير من انبي
 سلمة فاعقبها الله رسوله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتزوجها.
 (موطاء امام مالك ص ۲۱۹)

Ḥaḍrat Rabī'a bin Abi 'Abdul Raḥmān رَضِيَ اللهُ عَنْهُ has narrated on the authority of Ḥaḍrat Umm Salama رَضِيَ اللهُ عَنْهَا that the Almighty Allāh's Apostle صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ said: "Anybody who has been afflicted by a misfortune and, after saying what Allāh the Almighty has commanded in the *Holy Qur'ān* (i.e. We are from Allāh the Almighty and to Him we shall return, *Al-Qur'ān* 2:156), prays: 'O Allāh the Almighty, reward us in our misfortune and grant us better recompense for this,' Allāh the Almighty will answer his prayer accordingly."

She said: "When my husband Ḥaḍrat Abu Salama passed away, I recited the same prayer and I thought to myself: 'Who could be better than Ḥaḍrat Abu Salama?'" So Allāh the Almighty blessed her with His Prophet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, who married her (i.e. Umm Salama).

-(Mawṭa' Imām Mālik P219)

Contents

No.	Bounteous Names of the Holy Prophet ﷺ	Page
1	سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā Muḥammad ᷺ Sallalla-hu 'Alayhi wa Sallam (Our Leader the Highly Praised ﷺ)	1
2	سَيِّدِنَا أَيْدُلُ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ Sayyidunā Abdhal-un-Nās ᷺ (Our Leader the Most Generous ﷺ)	5
3	سَيِّدِنَا الْأَبْرُ الْوَالِدِ Sayyidunā Al-Abarru ᷺ (Our Leader the Most Pious ﷺ)	8
4	سَيِّدِنَا أَيْرُ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ Sayyidunā Abarr-un-Nās ᷺ (Our Leader the Most Pious of All ﷺ)	11
5	سَيِّدِنَا الْأَبْطَحِيُّ الْوَالِدِ Sayyidunā Al-Abṭahīyyu ᷺ (Our Leader the Resident of Al-Bathā' ﷺ)	16
6	سَيِّدِنَا أَيْبَلَجُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sayyidunā Ablaju ᷺ (Our Leader of Fair Complexion ﷺ)	19
7	سَيِّدِنَا الْأَبْيَضُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ Sayyidunā Al-Abyadu ᷺ (Our Leader with the White Complexion ﷺ)	21
8	سَيِّدِنَا الْأَتْقَى وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ Sayyidunā Al-Atqā ᷺ (Our Leader the Most Righteous ﷺ)	24
9	سَيِّدِنَا أَتْقَى النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ Sayyidunā Atqa-an-Nās ᷺ (Our Leader the Most Righteous of All People ﷺ)	28

- 10 سَيِّدُنَا أَثْبَتُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 32
Sayyidunā Athbat-un-Nās (Our Leader Most Persevering of All People) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 11 سَيِّدُنَا أَجْرَأُ النَّاسِ صِدْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 34
Sayyidunā Ajra'-un-Nāsi Ṣadran (Our Leader the Most Courageous of All Commanders) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 12 سَيِّدُنَا الْأَجَلُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 36
Sayyidunā Al-Ajallu (Our Leader the Most Sublime) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 13 سَيِّدُنَا الْأَجْوَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 42
Sayyidunā Al-Ajwadu (Our Leader the Most Generous) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 14 سَيِّدُنَا أَجْوَدُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 44
Sayyidunā Ajwad-un-Nās (Our Leader the Most Magnanimous of All People) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 15 سَيِّدُنَا الْأَجِيرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 47
Sayyidunā Al-Ajiru (Our Leader the Refuge Giver) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 16 سَيِّدُنَا أَحَادُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 50
Sayyidunā Uḥādu (Our Leader, the Unique) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 17 سَيِّدُنَا أَحَبُّ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 53
Sayyidunā Aḥabb-un-Nās (Our Leader the Most Beloved of All) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 18 سَيِّدُنَا الْأَحَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 62
Sayyidunā Al-Aḥadu (Our Leader the Unique) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- 19 سَيِّدُنَا الْأَحْسَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 65
Sayyidunā Al-Ahsanu (Our Leader the Most Beautiful) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- | | | |
|----|---|----|
| 20 | سَيِّدِنَا أَحْسَنُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥsan-un-Nās (ﷺ)
(Our Leader the Most Handsome of All People) | 68 |
| 21 | سَيِّدِنَا أَحْسَنُ النَّاسِ عُنُقًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥsan-un-Nāsi 'Unuqan (ﷺ)
(Our Leader of the Most Elegant Neck) | 70 |
| 22 | سَيِّدِنَا الْأَخْشَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Aḥshamu (ﷺ)
(Our Leader the Most Modest, Dignified) | 72 |
| 23 | سَيِّدِنَا أَحْلَى النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥlan-Nās (ﷺ)
(Our Leader the Most Eloquent of People) | 77 |
| 24 | سَيِّدِنَا أَحْلَمُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥlam-un-Nās (ﷺ)
(Our Leader the Most Gentle) | 79 |
| 25 | سَيِّدِنَا أَحْلَاهُمْ كَلَامًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥlāhum Kalāman (ﷺ)
(Our Leader of Most Pleasant Speech) | 82 |
| 26 | سَيِّدِنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Aḥmad (ﷺ)
(Our Leader the Greatest Praiser of Allāh the Almighty) | 84 |
| 27 | سَيِّدِنَا أَحْيَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Uḥayd (ﷺ)
(Our Leader the Saviour of People from Hell) | 89 |
| 28 | سَيِّدِنَا الْأَخْذُ بِالْحُجْرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Ākhdhu bil-Hujuzāt (ﷺ)
(Our Leader Who Holds People Back from Hell Fire) | 91 |
| 29 | سَيِّدِنَا أَخْذُ الصَّدَقَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Ākhdh-uṣ-Ṣadaqāt (ﷺ)
(Our Leader the Collector of Alms) | 93 |

- | | | |
|----|---|-----|
| 30 | سَيِّدُنَا الْأَخِيرُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Ākhīru <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Last Prophet of Allāh <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 95 |
| 31 | سَيِّدُنَا آخِرَايَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Ukhīrāyā <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Final Prophet of Allāh <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 98 |
| 32 | سَيِّدُنَا آخِرُ مَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Ākhīru Mākh <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader Who Brought the True Religion of Islām From Allāh <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 100 |
| 33 | سَيِّدُنَا الْأَخْشَى لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Akhshā Lillāh <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Most God Fearing <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 103 |
| 34 | سَيِّدُنَا الْأَدْعَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Ad‘aju <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Dark-Eyed <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 107 |
| 35 | سَيِّدُنَا الْأَدْوَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Adwamu <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader Persistent in Godliness <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 109 |
| 36 | سَيِّدُنَا أُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Udhunu Khairin <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Listener of Good <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 112 |
| 37 | سَيِّدُنَا أَرْأَفُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Ar‘afun-Nās <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader Most Affectionate of all People <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 115 |
| 38 | سَيِّدُنَا الْأَرْجَحُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Al-Arjahu <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Most Superior in Weight <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 117 |
| 39 | سَيِّدُنَا أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Arjah-un-Nāsi ‘Aqlan <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>
(Our Leader the Most Intelligent of People <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small>) | 120 |
| 40 | سَيِّدُنَا أَرْحَمُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Arḥamu Nāsi <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small> | 123 |

Sayyidunā Arḥam-un-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader Most Merciful of All صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

41 سَيِّدُنَا أَرْحَمُ النَّاسِ بِالْمَعْيَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 125

Sayyidunā Arḥam-un-Nāsi bil-'Ayāl صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Kindest of All People to His Family
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

42 سَيِّدُنَا أَرْمَى النَّاسِ طُلُوقَ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 128

Sayyidunā Annan-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader Best in Archery صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

43 سَيِّدُنَا أَرْوَعَ مُصَرَّ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 131

Sayyidunā Arwa'u Muḍar صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Distinguished Leader of the Mudar
Tribe صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

44 سَيِّدُنَا الْأَمْرَجُ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 133

Sayyidunā Al-Azajju صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader With Beautiful Arched Eyebrows صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

45 سَيِّدُنَا الْأَمْزَكِيُّ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 135

Sayyidunā Al-Azkā صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Pure صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

46 سَيِّدُنَا الْأَمْزَهْرِيُّ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 139

Sayyidunā Al-Azharu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader With the Brilliant Fair Complexion صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

47 سَيِّدُنَا أَرْهَدُ النَّاسِ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 142

Sayyidunā Azhad-un-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Ascetic of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

48 سَيِّدُنَا الْأَسَدُّ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 145

Sayyidunā Al-Asadd صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Steadfast صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

49 سَيِّدُنَا أَسْعَى النَّاسِ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 150

Sayyidunā Askhan-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader Most Generous of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

50 سَيِّدُنَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ طُلُوقِ السَّيْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 152

Sayyidunā Uswatun-Hasanah ﷺ

(Our Leader An Excellent Exemplar ﷺ)

51 سَيِّدُنَا أَمْجَعُ النَّاسِ طَوْلًا ﷺ 156

Sayyidunā Ashja'-un-Nās ﷺ

(Our Leader the Bravest of All Men ﷺ)

52 سَيِّدُنَا أَلْأَشَدُّ حَيَاءً طَوْلًا ﷺ 159

Sayyidunā Al-Ashaddu Hayā'an ﷺ

(Our Leader Most Modest of All Men ﷺ)

53 سَيِّدُنَا أَشَدُّ النَّاسِ بَأْسًا ﷺ 161

Sayyidunā Ashaddun-Nāsi-Ba'san ﷺ

(Our Leader the Most Overpowering of All People ﷺ)

54 سَيِّدُنَا أَشَدُّ النَّاسِ حَيَاءً ﷺ 163

Sayyidunā Ashad-un-Nāsi Hayā'an ﷺ

(Our Leader Most Modest of All People ﷺ)

55 سَيِّدُنَا أَشْرَفُ النَّاسِ طَوْلًا ﷺ 165

Sayyidunā Ashraf-un-Nās ﷺ

(Our Leader the Most Honoured of People ﷺ)

56 سَيِّدُنَا الْأَسْنَبُ طَوْلًا ﷺ 168

Sayyidunā Al-Ashnabu ﷺ

(Our Leader With Sparkling White Teeth ﷺ)

57 سَيِّدُنَا أَصْبَرُ النَّاسِ طَوْلًا ﷺ 170

Sayyidunā Aşbar-un-Nās ﷺ

(Our Leader the Most Patient of People ﷺ)

58 سَيِّدُنَا الْأَصْدَقُ فِي اللَّهِ ﷺ 173

Sayyidunā Al-Aşdaq-Fillāh ﷺ

(Our Leader the Most Truthful to Allāh ﷺ)

59 سَيِّدُنَا أَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً ﷺ 178

Sayyidunā Aşdaq-un-Nāsi Lahjatan ﷺ

(Our Leader the Most Truthful in Speech ﷺ)

60 سَيِّدُنَا الْأَطْهَرُ طَوْلًا ﷺ 181

Sayyidunā Al-Aṭharu ﷺ

(Our Leader Most Pure صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

- | | | |
|----|---|-----|
| 61 | سَيِّدَنَا الْأَطْيَبُ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Al-Atyabu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Fragrant صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 186 |
| 62 | سَيِّدَنَا أَطْيَبُ الْأَخْلَاقِ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Atyab-ul-Akhlāq صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader of the Finest Character صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 191 |
| 63 | سَيِّدَنَا أَطْيَبُ الْجَسَدِ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Atyab ul-Jasad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader of the Purest Physique صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 194 |
| 64 | سَيِّدَنَا أَطْيَبُ الذِّكْرِ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Atyab-udh-Dhikr صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader of the Purest Repute صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 197 |
| 65 | سَيِّدَنَا أَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sayyidunā Atyab-un-Nāsi Rīḥan صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader of the Most Fragrant Scent صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 201 |
| 66 | سَيِّدَنَا أَعْدَلُ النَّاسِ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā A'dal-un-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Just of People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 203 |
| 67 | سَيِّدَنَا الْأَعْرَبُ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Al-A'rabu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Eloquent in Arabic صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 207 |
| 68 | سَيِّدَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā A'rab-ul-'Arab صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Eloquent of All Arabs صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 209 |
| 69 | سَيِّدَنَا الْأَعَزُّ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Al-A'azzu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Most Honourable صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 211 |
| 70 | سَيِّدَنَا الْأَعْظَمُ طَوْلًا وَعَيْدًا
Sayyidunā Al-A'zamu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(Our Leader the Greatest صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) | 215 |
| 71 | سَيِّدَنَا أَعْفُ النَّاسِ طَوْلًا وَعَيْدًا | 217 |

- Sayyidunā A'fun-Nās ﷺ
 (Our Leader the Most Chaste of All People ﷺ)
- 72 سَيِّدِنَا الْأَعْلَى ﷺ 219
 Sayyidunā Al-A'la ﷺ
 (Our Leader the Highest (in Status) ﷺ)
- 73 سَيِّدِنَا الْأَعْلَمُ بِاللَّهِ ﷺ 221
 Sayyidunā Al-A'lamu Billāh ﷺ
 (Our Leader Most Knowledgeable of Allāh ﷺ)
- 74 سَيِّدِنَا الْأَعْرُ ﷺ 224
 Sayyidunā Al-Agharru ﷺ
 (Our Leader, Most Beautiful ﷺ)
- 75 سَيِّدِنَا الْأَعْيُرُ ﷺ 226
 Sayyidunā Aghyaru ﷺ
 (Our Leader the Most Respectful of Honour ﷺ)
- 76 سَيِّدِنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ ﷺ 229
 Sayyidunā Afṣaḥ-ul-'Arab ﷺ
 (Our Leader the Most Eloquent of All Arabs ﷺ)
- 77 سَيِّدِنَا أَفْصَحُ النَّاسِ ﷺ 231
 Sayyidunā Afṣaḥ un-Nās ﷺ
 (Our Leader the Most Eloquent of People ﷺ)
- 78 سَيِّدِنَا أَفْضَلُ النَّاسِ ﷺ 233
 Sayyidunā Afḍal-un-Nās ﷺ
 (Our Leader the Best of People ﷺ)
- 79 سَيِّدِنَا أَفْقَى الْأَنْفِ ﷺ 235
 Sayyidunā Aqnal Anf ﷺ
 (Our Leader of the Most Elegant Nose ﷺ)
- 80 سَيِّدِنَا أَفْقَى الْعَرَبِينَ ﷺ 238
 Sayyidunā Aqnal-'Irna'in ﷺ
 (Our Leader With a High Bridged Nose ﷺ)
- 81 سَيِّدِنَا الْأَكْبَرُ ﷺ 241
 Sayyidunā Al-Akbaru ﷺ
 (Our Leader the Greatest ﷺ)

- 82 سَيِّدَنَا أَكْبَرُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 243
 Sayyidunā Akbar un-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Greatest of All People صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 83 سَيِّدَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 246
 Sayyidunā Akthar un-Nāsi Tab'an صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader With the Largest Following صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 84 سَيِّدَنَا الْأَكْرَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 249
 Sayyidunā Al-Akramu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader, the Most Honourable صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 85 سَيِّدَنَا أَكْرَمُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 254
 Sayyidunā Akram-ul-Awwalīna wal-Ākhirīn صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Honourable of All the Former
 And the Last صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 86 سَيِّدَنَا أَكْرَمُ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 258
 Sayyidunā Akram-un-Nās صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Noble of All Mankind صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 87 سَيِّدَنَا أَكْرَمُ النَّاسِ حَيًّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 262
 Sayyidunā Akram-un-Nāsi Ḥayyan صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader of the Most Honourable Tribe صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 88 سَيِّدَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 265
 Sayyidunā Akramu Wulde-Ādam صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) the Most Distinguished of the
 Progeny of Adam (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
- 89 سَيِّدَنَا الْإِكْلِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 269
 Sayyidunā Al-Iklīlu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader, the Crown صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 90 سَيِّدَنَا الْإِمَامُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 271
 Sayyidunā Al-Imāmu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Master, the Leader صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
- 91 سَيِّدَنَا إِمَامُ الْخَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 273
 Sayyidunā Imām ul-Khair صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Master, the Leader of Good صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)